

اُردو۔ اُزبیک مشترک الفاظ لغت

مُرتبہ

ڈاکٹر تاش مرزا خاں مرزا آف



ادارہ فروغِ قومی زبان، اسلام آباد
پاکستان

اُردو-اُزبیک مشترک الفاظ لغت

مرتب کرده

ڈاکٹر تاش مرزا خالمر زائیف



ادارہ فروغِ قومی زبان، اسلام آباد

پاکستان

فہرست

۵	پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم مظہر	:	تُخُن ناشر	☆
۷	ڈاکٹر راشد حمید	:	پیش گفتار	☆
۹	ڈاکٹر تاش مرزا خالمر زانیف	:	حرفِ آغاز	☆
۱۱	Dotsent Toshmirza Xolmirzayev	:	So‘zboshi (تمہید)	☆
۱۳	محمد عباس خان	:	احسانِ عظیم	☆
۱۵			لغت میں اُردو الفاظ کی تعداد بہ لحاظ حروفِ تہجی	☆
۱۹			اُردو- اُزبیک مشترک الفاظ- لغت	☆

مُخَن نَاشِر

ادارہ فروغِ قومی زبان، اسلام آباد، پاکستان ایک اہم علمی، ادبی، تحقیقی و ثقافتی ادارہ ہے جس کا مقصد قومی اور عالمی سطح پر قومی زبان کا فروغ اور اس کے علمی، ادبی اور تحقیقی سرمائے کی ترویج و اشاعت ہے، چنانچہ یہ ادارہ ۴- اکتوبر ۱۹۷۹ء میں اپنے قیام سے اب تک سات سو سے زیادہ کتب شائع کر چکا ہے۔ ان کتب کی اشاعت کا مقصد اُردو زبان و ادب سے متعلق شخصیات اور علوم و معارف کو شائقین علم و ادب کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔

انسانی سماج کی ساخت و پرداخت میں انسانوں کے باہمی تعلق ہی کا بنیادی کردار ہے اور زبان اس تعلق کے لیے واسطے اور رابطے کا کام کرتی ہے۔ اسی کے ذریعے فرد اور سوسائٹی ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں اور دکھ، درد بانٹتے ہیں، جس سے روابط کو فروغ ملتا ہے۔ زبانیں سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اپنے الفاظ اور اُن کے معنی پر انحصار کرتی ہیں۔ اس بنا پر کسی ایک زبان بولنے اور لکھنے والوں کو دوسری زبانوں کے خزانوں سے استفادے کے لیے اس زبان کے الفاظ اور معانی کو سمجھنا ضروری ہے۔ اہل علم و دانش اور ماہرینِ لسانیات نے اس کام کو آسان کرنے کے لیے لغت اور فرہنگیں تیار کی ہیں جو ارتقا کرتے کرتے باقاعدہ علم کی ایک شاخ کی حیثیت اختیار کر چکی ہیں۔ پاکستان کے وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ تاریخی اور اخلاص پر مبنی تعلقات ہیں۔ بہت سے علماء، دانشمندان، صوفیائے کرام، شعراء، ادباء، فنکار چنگیز خان اور ہلاکو کے زمانے میں وسطی ایشیا سے ہجرت کر کے جنوبی ایشیا آتے رہے اور یہاں پر خاص طور پر اس خطے میں جس پر آج وطن عزیز پاکستان قائم ہے، مستقل سکونت اختیار کر گئے۔ خصوصاً پاکستان اور وسطی ایشیائی ریاستوں کے باشندوں کا آپس میں میل جول بڑھتا رہا۔ جدید دور میں وسطی ایشیائی ریاستوں اُزبیکستان، تاجیکستان، کرغزستان، قزاقستان، ترکمانستان وغیرہ، ان کی آزادی سے مذکورہ ریاستوں اور پاکستان کے علمی، ادبی اور ثقافتی روابط مزید مضبوط ہوئے اور آمد و رفت بھی تیز تر ہو گئی۔ اس پس منظر میں جن علمی شخصیات نے ادبی، تحقیقی اور ثقافتی کام سرانجام دیا، اُن میں سے ایک نمایاں کام وسطی ایشیائی زبان کی لغت نویسی بھی ہے۔ خطے میں کئی لغات شائع ہوئیں جن میں سے وطن عزیز میں ادارہ فروغِ قومی زبان (مقتدرہ قومی زبان) نے ڈاکٹر گوہر نوشاہی کی تیار کردہ سات زبانوں پر مشتمل ای سی او ممالک کی ”فرہنگ مشترک“ شائع کی ہے۔ پاکستان کے دوست

اور برادر ملک اُزبیکستان کے نامور محقق، لغت نویس اور ادیب تاش مرزا خالمر زامیف نے پنجاب یونیورسٹی اور سینٹل کالج سے اُردو کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور اُزبیکستان اور پاکستان میں دونوں زبانوں پر بہت اہم لغت شائع کرنے کا اہم کام انجام دیا۔ خاص طور پر ان کی ”اُردو- روسی لغت“ اور ”اُردو- اُزبیک لغت“ کا کام قابل توجہ ہیں جو اسی ادارے سے شائع ہوئیں۔ وہ نصف صدی سے زیادہ عرصہ سے آج بھی مشنری جذبے کے ساتھ اس کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں، جس سے پاکستان اور اُزبیکستان کے علمی و ادبی رابطے مزید گہرے ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر تاش مرزا صاحب نے آج کے دور کے تقاضوں اور ضرورت کے پیش نظر ”اُردو- اُزبیک مشترک الفاظ لغت“ ہماری درخواست پر ایک لغت ترتیب دی ہے جسے ادارہ فروغ قومی زبان نے شائع کرنے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ اس سلسلے میں ان کے فرزند ارجمند عادل تاش مرزا اور عزیز و لائق شاگردہ پروفیسر محی عبدالرحمن نے اس کام میں ان کی علمی مشاورت کی اور ہم پر احسان کیا کہ ہمیں یہ کتاب شائع کرنے کے لیے ڈاکٹر تاش مرزا صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ قائم کرایا۔ یہ لغت اہل علم و دانش کے علاوہ پاکستان اور اُزبیکستان کے بارے میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ایک مفید منبع اور حوالہ کی کتاب ہے۔ دونوں ملکوں کے سیاحوں کی سہولت کے لیے اس میں بہت اہم الفاظ شامل ہیں جن کی مدد سے اُزبیکستان کے روزمرہ امور انجام دیے جاسکتے ہیں۔ نیز اس سے دونوں دوست ملکوں میں رابطے مزید گہرے اور مضبوط ہو سکتے ہیں۔ ادارہ فروغ قومی زبان فاضل مصنف و مرتب کو اس نہایت اہم علمی کام پر مبارکباد پیش کرتا ہے اور اُن کا شکر گزار ہے کہ انھوں نے ادارے پر اعتماد کرتے ہوئے اسے شائع کرنے کا موقع دیا۔

میں ادارہ فروغ قومی زبان کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر راشد حمید اور اپنے دیگر رفقاء کار ڈاکٹر عارف حسین، محبوب خان بگٹی، کامران مشتاق، منظور احمد، رضوان عزیز اور نور محمد خاور کا شکر گزار ہوں کہ انھوں نے اس کتاب کی اشاعت کے لیے بھرپور کام کیا۔

پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم مظہر

ڈائریکٹر جنرل

ادارہ فروغ قومی زبان، اسلام آباد

پاکستان

پیش گفتار

ادارہ فروغِ قومی زبان اپنے قیام کے روز سے قومی زبان کے فروغ اور سرکاری زبان کی ترویج جیسے مقاصد کے حصول کے لیے مختلف جہتوں میں مصروف عمل ہے۔ اس سلسلے میں اہم پہلو یہ ہے کہ فروغِ اُردو کا مرحلہ ہو یا دفتری زبان کی ترویج کا، کتابوں کی اشاعت فروغ و ترویج دونوں مقاصد کے ضمن میں بہترین ذریعہ ہو سکتا ہے۔ ادارے نے اب تک سات سو سے زیادہ کتابیں شائع کر کے دونوں مقاصد حاصل کرنے کی طرف مثالی پیش قدمی جاری رکھی۔ اردو کی بہ حیثیت سرکاری دفتری زبان ترویج کا مسئلہ کتنا ہی تاخیر کا شکار کیوں نہ ہو، بہر حال ۱۹۷۳ء کے آئین کا تقاضا اور منشا یہی ہے کہ اُردو بہ حیثیت دفتری زبان رائج کی جائے، سو ادارہ اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ بر آہوتا رہے گا۔ دوسری جانب قومی زبان کے فروغ و ترویج کے سلسلے میں ادارہ مسلسل مطبوعات اور علمی کانفرنسوں، سیمیناروں اور نشستوں کے ذریعے پیش رفت جاری رکھے ہوئے ہے۔ خاص طور پر لغت سازی اور زبان کی ترقی کے سلسلے میں کتابوں کی اشاعت ادارے کے خاص میدان رہے ہیں۔

وسطی ایشیائی ریاستیں نہ صرف یہ کہ اسلامی شناخت کے سبب اہم ہیں بلکہ پاکستان کے ساتھ عوامی رابطوں میں بڑھتی گرجوشی اور اقتصادی حوالوں سے بھی ایک دوسرے کے لیے غیر معمولی اہمیت اختیار کرتی جا رہی ہیں۔ ماضی قریب میں ان ریاستوں اور پاکستان کے درمیان دفاعی، اقتصادی اور تہذیبی شعبوں میں تعاون تیزی سے بڑھا ہے۔ اسی تسلسل میں ادارہ فروغِ قومی زبان نے ازبیکستان کے نام ور محقق اور اُستاد پروفیسر ڈاکٹر تاش مرزا خالمر زائف کی مرتب کردہ کتاب ”اُردو- ازبیک مشترک الفاظ لغت“ شائع کرنے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس سے پہلے بھی ادارے کے لیے بے حد وقیع علمی اور لسانی منصوبے مکمل کیے۔ ان منصوبوں میں ”اُردو- روسی لغت“ اور ”اُردو- ازبیک لغت“ خاص طور پر بے حد اہم ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر تاش مرزا خالمر زانیف ازبیکستان میں رہتے ہیں مگر ان کا دل پاکستان میں اٹکا رہتا ہے جب کہ اردو کے لیے ان کی محبت بے حد گراں قدر خوبی ہے۔ وہ پاکستان کے لیے ازبیکستان میں پاکستان کے سفیر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ادارے کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ وسطی ایشیا کے ساتھ پاکستان کے گہرے دینی، تہذیبی اور علمی رشتے اور تعلق کو مزید مضبوط کرنے کے لیے یہ لغت شائع کر رہا ہے۔

ڈاکٹر راشد حمید

ایگزیکٹو ڈائریکٹر

ادارہ فروغ قومی زبان، اسلام آباد

پاکستان

حرفِ آغاز

پاکستان کے ممتاز مؤرخ اور ماہر آثارِ قدیمہ مرحوم احمد حسن دانی جنھوں نے وسطی اور جنوبی ایشیا کے خطے میں کئی برسوں تک آثارِ قدیمہ کی تحقیق کی تھی، لکھا تھا:

”ہماری قوموں کے درمیان علمی، ثقافتی اور روحانی روابط کی بنیاد میں ایک طرف عظیم شاہراہِ ریشم کار فرما رہی، تو دوسری طرف سمرقند اور بخارا جیسے قدیم علمی مراکز سے آنے والے علما و فضلا، خصوصاً اہل تصوف کی اخلاقی و عرفانی اور روحانی و فکری تعلیمات کی بدولت دو قوموں اور دو ریاستوں کے درمیان رشتوں کی گہری جڑیں پیوست ہیں۔“

احمد حسن دانی لکھتے ہیں کہ:

”ڈیڑھ ہزار سال قبل کشان حکمرانوں نے وسطی اور جنوبی ایشیا کے عوام کے درمیان جو ثقافتی روابط قائم کیے تھے، انھیں شاہراہِ ریشم نے مضبوط کیا، جبکہ ہماری سرزمین سے آنے والے حکمرانوں، خصوصاً بابر مرزا کی پالیسی نے ان میں نئی روح پھونک دی۔ اس عظیم ورثے کے نتیجے میں ایک مشترکہ تہذیب نے جنم لیا۔“

چنانچہ صدیوں پر محیط یہی ثقافتی و روحانی اقدار، روایات اور تاریخ کا باہمی امتزاج سب سے پہلے زبان میں اپنا عکس دکھاتا ہے۔ یہ مظہر ہماری قوموں کے درمیان تاریخی، ثقافتی، لسانی اور دینی قربت کا ایک واضح عکاس ہے۔ وسطی ایشیا سے اس خطے میں بے شمار شعر و ادب، ہنر مند و علما، صوفیا اور علمائے دین آئے، اور اس عمل کی جھلک ہماری زبانوں میں بھی نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔

اُردو اور ازبیک زبانیں اپنی قدیم تہذیبی جڑوں، ادبی روایات اور باہمی لسانی روابط کے باعث ایک خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں وسطی ایشیا اور برصغیر کے درمیان علمی، ثقافتی

اور تجارتی تعلقات نے ان دونوں زبانوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔
اسی پس منظر میں پیش نظر اردو۔ اُزبیک عمومی لغت کو مرتب کیا گیا ہے۔

اس لغت کی تیاری کا بنیادی مقصد اردو اور اُزبیک زبان سیکھنے والوں، طلبہ، اساتذہ، مترجمین اور محققین کے لیے ایک سہل اور عملی مدد فراہم کرنا ہے، تاکہ وہ روزمرہ استعمال کے عام الفاظ کو آسانی سے سمجھ سکیں اور دونوں زبانوں کے درمیان معنوی ربط کو بہتر طور پر محسوس کر سکیں۔

اس میں منتخب الفاظ کو اردو رسم الخط، تلفظ اور اُزبیک متبادل کے ساتھ منظم انداز میں پیش کیا گیا ہے، تاکہ قاری کو بیک وقت پڑھنے، بولنے اور سمجھنے میں سہولت ہو۔

لغت کو ترتیب دیتے اور مرتب کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ لغت میں زیادہ تر عمومی اور کثرت استعمال والے الفاظ شامل کیے جائیں، اور ان کی پیشکش واضح، مختصر اور عملی ہو تاکہ زبان ایک زندہ اور مسلسل ترقی پذیر مظہر ہے، اس لیے اس کام کو حتمی نہیں بلکہ آئندہ تحقیق اور تکمیل کے لیے ایک بنیاد کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔

امید ہے کہ یہ کاوش اردو اور اُزبیک زبانوں کے درمیان لسانی پُل کو مزید مضبوط بنائے گی اور طلبہ و محققین کے لیے مفید ثابت ہوگی۔

مرتب کردہ

ڈاکٹر تاش مرزا خالمر زاسیف

So‘zboshi

Taniqli pokistonlik tarixchi va arxeolog Ahmad Hasan Doniy Markaziy va Janubiy Osiyo hududlarida ko‘p yillar davomida tadqiqot olib borgan olim sifatida, shunday yozadi:

Xalqlarimiz o‘rtasidagi ilmiy, madaniy-ma‘naviy aloqalarning asosida bir tomondan, Buyuk ipak yo‘li muhim o‘rin tutgan bo‘lsa, ikkinchi tomondan Samarqand va Buxoro kabi qadimiy ilm markazlaridan chiqqan ulamolar, ayniqsa tasavvuf ahlining axloqiy va ruhiy ta‘limotlari katta ta‘sir ko‘rsatgan. Shu omillar ikki xalq va davlat o‘rtasidagi munosabatlarning mustahkam ildiz otishiga sabab bo‘lgan.

Olimning ta‘kidlashicha, taxminan bir yarim ming yil avval Kushon hukmdorlari Markaziy va Janubiy Osiyo xalqlari o‘rtasida madaniy aloqalarni yo‘lga qo‘ygan bo‘lsa, Ipak yo‘li bu aloqalarni yanada mustahkamlagan. Keyinchalik esa, bizning zamindan chiqqan hukmdorlar, ayniqsa Bobur Mirzo o‘z siyosati orqali bu munosabatlarga yangi ruh bag‘ishlagan. Ana shu jarayonlar natijasida mushtarak madaniyat shakllangan.

Asrlar davomida shakllangan ushbu madaniy va ma‘naviy meros, eng avvalo, tilda o‘z aksini topadi. Bu esa xalqlarimiz o‘rtasidagi tarixiy, madaniy, lisoniy va diniy yaqinlikning yaqqol isbotidir. Markaziy Osiyodan ushbu hududga ko‘plab shoirlar, adiblar, hunarmandlar, ulamolar va tasavvuf namoyandalari kelgan bo‘lib, bu jarayonning ta‘siri tillarimizda ham sezilarli darajada namoyon bo‘lgan.

O‘zbek va urdu tillari o‘zining boy tarixiy ildizlari, adabiy an‘analari va o‘zaro lisoniy aloqalari bilan alohida ahamiyatga ega. Turli davrlarda Markaziy Osiyo va Hind subkontinenti o‘rtasidagi ilmiy, madaniy va savdo aloqalari bu ikki tilni bir-biriga yaqinlashtirgan. Zero mazkur urdu va o‘zbek tillariga xos mushtarak so‘zlar ana shu ko‘p asrlik jarayonning mahsuli hisoblanadi .

Qo‘lingizdagi lug‘at — urdu va o‘zbek tillarini o‘rganayotgan talabalar, o‘qituvchilar, tarjimonlar va tadqiqotchilar uchun amaliy

qo'llanmadir. Bu orqali ular kundalik hayotda qo'llaniladigan so'zlarni oson tushunib, ikki til o'rtasidagi bog'liqlikni yaxshiroq his qilishlari mumkin.

Lug'atda so'zlar urdu yozuvi, talaffuzi va o'zbekcha muqobillari bilan tizimli ravishda berilgan bo'lib, kitobxon uchun o'qish, gapirish va tushunishda yengillik yaratadi.

Lug'atni tuzish jarayonida, asosan, ko'p ishlatiladigan va umumiy ma'noga ega bo'lgan so'zlarni tanlashga alohida e'tibor qaratildi. Biroq til doimo rivojlanib boradigan jarayon bo'lgani bois ushbu ishni yakuniy natija emas, balki keyingi tadqiqotlar uchun asos sifatida qarash lozim.

Umid qilamizki, ushbu lug'at urdu va o'zbek tillari o'rtasidagi lisoniy ko'priknı yanada mustahkamlaydi va talabalar hamda tadqiqotchilar uchun foydali manba bo'ladi.

Tuzuvchi:

Dotsent Toshmirza Xolmirzayev

احسانِ عظیم

”ازبیکستان: تیسری نشاۃ ثانیہ۔ مستقبل کا تصور“ ایک فنکارانہ ادبی و صحافتی اور فلسفیانہ تاریخی و لسانی تصور ہے جو آج ازبیکستان کے راہنما شوکت میرضیانیف کے فلسفے اور خیالات کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ فلسفہ اور خیال ایک ایسی انسانی سوچ ہے جو یہ سکھاتی ہے کہ تعاون تصادم پر، علم خوف پر اور اعتماد دشمن پر کیسے قابو پاتا ہے اور آج کی دنیا کے لیے ایک بنیادی پیغام ہے۔

عظیم آباء اجداد کے روحانی ورثے کی بنیاد پر اور ایک لمبے تاریخی سفر کے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے آج وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا کی دو عظیم قومیں ایک بار پھر شاہراہ ریشم پر کندھے سے کندھا ملا کر سفر کرنے کی لیے منصوبہ بندی کر رہی ہیں۔ جی ہاں وہ تاریخی سفر جو پہلی اور دوسری نشاۃ ثانیہ میں ان اقوام نے کامیابی سے طے کیا تھا۔ آج ایک بار پھر دنیا کے لیے دو اہم خطوں وسطی ایشیا و جنوبی ایشیا میں رہنے والی اقوام ازبیک اور پاکستانی ماضی کی شاہراہ ریشم کو ایک بار پھر نئے رنگ میں، نئے روپ میں، نئی ٹیکنالوجی اور امن، دوستی، معاشی ترقی کے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے تعمیر کر رہے ہیں۔

اس سفر میں جو کہ شمالاً جنوباً اور شرقین و غربین طے کیا جا رہا ہے۔ آج سڑکوں پر، ہواؤں و فضاؤں میں، ریلوے و پانی میں راستے طے کیے جا رہے ہیں۔ نئی شاہراہ ریشم کے نئے قافلے ثقافتی، ادبی، معاشی و لسانی پل تعمیر کر رہے ہیں اور جناب تاش مرزا خاں لمرزانیف جو کہ میرے لیے نہ صرف دوست ہیں بلکہ وہ میرے استاد بھی ہیں۔ انھوں نے کئی سال کی عرق ریزی کے بعد نہ صرف اردو- روسی لغت بھی ترتیب دی بلکہ زندگی کے اس اہم موڑ پر بڑی جانفشانی سے ازبیک- اردو- ازبیک لغت بھی ترتیب دی۔

پاکستانی اور ازبیک عوام آئندہ کئی صدیاں ان کے اس کام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گزاریں گے اور مرزا صاحب نے ازبیک- اردو- ازبیک لغت کا جو لسانی و ادبی ثقافتی پل تعمیر کیا ہے وہ تیسری نشاۃ ثانیہ کی تعمیر کے تصور میں مصروف مستقبل کے لکھاریوں، ادیبوں، طلبہ و اساتذہ کے کام آئے گا۔

مرزا صاحب پاکستان میں پاکستانیوں سے بہتر اُردو جانتے ہیں اور وسطی ایشیا کا کوئی کونہ یا درس گاہ ایسی نہیں کہ ان کے شاگردوں نے اپنے قدم وہاں نہ جمائے ہوں۔ مرزا صاحب کی اس کاوش پر میں انھیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ کہ دونوں برادر قومیں ہمیشہ ان کی شکر گزار رہیں گی۔ اُردو و اُزبیک زبانوں پر ان کا یہ احسانِ عظیم ہے۔

محمد عباس خان
راولپنڈی، پاکستان

لغت میں اُردو الفاظ کی تعداد بہ لحاظ حروفِ تہجی

Номер	БУКВА	Название	Колво Букв - строк
۱	آ	alif	۹۳
۲	ا	alif	۲۶۳
۳	ب	be	۲۴۰
۴	پ	pe	۱۲۱
۵	ت	te	۳۲۰
۶	ٹ	ṭe	-
۷	ث	se	۲۰
۸	ج	jīm	۱۵۱
۹	چ	ce, ĉe	۶۸
۱۰	ح	baḥī he	۱۲۹
۱۱	خ	xe	۱۸۹
۱۲	د	dāl	۱۵۲

Номер	БУКВА	Название	Колво Букв - строк
۱۳	دُ	ḍāl	-
۱۴	ذ	zāl	۱۷
۱۵	ر	re	۱۰۶
۱۶	رُ	ṛe	-
۱۷	ز	ze	۹۱
۱۸	ژ	zhe, že	?
۱۹	س	sīn	۱۹۲
۲۰	ش	šīn	۱۸۹
۲۱	ص	su'ād	۷۶
۲۲	ض	zu'ād	۲۸
۲۳	ط	tō'ē	۹۸
۲۴	ظ	zō'ē	۲۰
۲۵	ع	ain	۲۰۳
۲۶	غ	ğain	۹۸

Номер	БУКВА	Название	Колво Букв - строк
۲۷	ف	fe	۱۶۶
۲۸	ق	qāf	۱۹۶
۲۹	ک	kāf	۱۵۶
۳۰	گ	gāf	۸۹
۳۱	ل	lām	۶۱
۳۲	م	mīm	۴۹۰
۳۳	ن	nūn	۲۱۷
۳۴	و	vā'o	۷۵
۳۵	ه	choṭī he	۸۴
۳۶	د	do chashmī hē	-
۳۷	ء	hamza	-
۳۸	ی	choṭī ye	۲۶
۳۹	ے	baṭī ye	-
	Итого		۴۴۲۳

اُردو - اُزبیک مشترک الفاظ
لغت

آ (alif)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
آب	<i>a:b</i>	ob,suv
آبادا	<i>a:ba:d</i>	obod
آبادان ۲	<i>a:ba:da:n</i>	obodon (gullab-yashnayotgan)
آبِ جوش	<i>a:be-jo'sh</i>	objo'sh (qaynoq suv)
آبِ حیات	<i>a:be-haya:t</i>	obi hayot
آبِ دار	<i>a:bda:r</i>	obdor (suvli, serjilo)
آبِ دستہ (دست)	<i>a:bdasta</i>	obdasta
آبِ دیدہ	<i>a:bdi:da</i>	obidiyda (ko'z yoshi)
آبِ رحمت	<i>a:be-rehmat</i>	obirahmat (yomg'ir)
آبِ رواں	<i>a:be-rava:N</i>	obiravon (oqar suv)
آبِ زم زم	<i>a:be-zamzam</i>	obi zamzam
آبِ نان	<i>a:be-na:n</i>	obinon
آبِ وہوا	<i>a:bo'-hava:</i>	ob-havo
آبرو	<i>a:bru:</i>	obro'
آبرودار	<i>a:bru:da:r</i>	obro'dor (etiborli, nufuzli)
آپا	<i>a:pa:</i>	opa
آتش	<i>a:tish</i>	otash (olov)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
آتش پرست	<i>a:tishparast</i>	otashparast (o'tga sajda qiluvchi)
آتش خانه	<i>a:tishxa:na</i>	otashxona (o'txona, o'choq)
آتش دان	<i>a:tishda:n</i>	otashdon
آتش زبان	<i>a:tishzaba:n</i>	otashzabon (so'zamol)
آتشين	<i>a:tashi:N</i>	otashin (qizg'in)
آثارا	<i>a:sa:r</i>	osor (qadimiyat, yodgorlik)
آثار ۲	<i>a:sa:r</i>	osor (qoldiq; belgi)
آثارِ عتيقه	<i>a:sa:re -ati:qa</i>	osori atiqa
آخِر	<i>a:xir</i>	oxir
آخِرَت	<i>a:xirat</i>	oxirat
آخِرِي	<i>a:xiri:</i>	oxiri (nihoyat)
آخوَر	<i>a:xu:r</i>	oxur
آداب	<i>a:da:b</i>	odob
آدم	<i>a:dam</i>	odam
آدم خور	<i>a:damxo'r</i>	odamxo'r
آدم (آدمي زاد)	<i>a:dam (a:dmi:)za:d</i>	odamzod inson,bashar)
آدمي	<i>a:dmi:</i>	odamiy
آذوقه	<i>a:zu:qa</i>	ozuqa
آرا	<i>a:ra:</i>	oro (bezak, zeb-ziynat)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
آراسته	<i>a:ra:sta</i>	orasta (bezatilgan)
آرام	<i>a:ra:m</i>	orom
آرام گاه	<i>a:ra:mga:h</i>	oromgoh
آرائش	<i>a:ra:ish</i>	oroyish (zeb)
آرزو	<i>a:rzu:</i>	orzu
آرزومند	<i>a:rzu:mand</i>	orzumand
آزاد	<i>a:za:d</i>	ozod (erkin)
آزاده	<i>a:za:da</i>	ozoda (toza, pokiza)
آزار	<i>a:za:r</i>	ozor (ranj-alam, xafalik)
آزردہ	<i>a:zurda</i>	ozurda (xafa, ranjigan)
آزمائش	<i>a:zma:ish</i>	ozmoyish (sinov)
آسان	<i>a:sa:n</i>	oson
آسائش	<i>a:sa:ish</i>	osoyish (tinchlik-xotirjamlik)
آسائشنة	<i>a:sa:ishta</i>	osoyishta (tinch)
آستان	<i>a:sta:n</i>	oston
آستانہ	<i>a:sta:na</i>	ostona (kiraverish, bo'sag'a)
آسمان	<i>a:sma:n</i>	osmon
آسمانی (رنگ)	<i>a:sma:ni:</i>	osmoniy (rang)
آسودہ	<i>a:su:da</i>	osuda (tinch, xotirjam)
آش	<i>a:sh</i>	osh (ovqat)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
آشفتہ	<i>a:shufta</i>	oshufta (maftun; parishon)
آشکار، آشکارہ	<i>a:shka:r,a:shka:ra</i>	oshkora (ochiq-oydin)
آشنا	<i>a:shna:</i>	oshna (do'st)
آشیان	<i>a:shiya:n</i>	oshyon (in; kulba)
آغاز	<i>a:g'a:z</i>	og'oz (ibtido, boshlanish)
آغوش	<i>a:g'osh</i>	og'ush
آفت	<i>a:fat</i>	ofat
آفتاب	<i>a:fta:b</i>	oftob
آفتابہ	<i>a:fta:ba</i>	oftoba (obdasta)
آفرین	<i>a:fri:n</i>	ofarin (balli)
آقا	<i>a:qa:</i>	aka (og'a)
آگاہ	<i>a:ga:h</i>	ogoh
آل	<i>a:l</i>	ol (esk. qizil)
آلات	<i>a:la:t</i>	olat (esk. asbob)
آلو بخارا	<i>a:lu: buxa:ra:</i>	olxo'ri
آلوچہ	<i>a:lu:cha</i>	olcha
آمان	<i>a:ma:n</i>	omon (tinchlik)
آمانت	<i>a:ma:nat</i>	omonat
آمد	<i>a:mad</i>	omad (baxt, tole)
آمیختہ	<i>a:mexta</i>	omixta

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
آمین	<i>a:mi:n</i>	omin (ijobat bo'lsin)
آن (لحمه)	<i>a:n (har a:n)</i>	on (vaqt)
آوارگی	<i>a:va:ragi:</i>	ovoragarchilik (sarson-sargardonlik)
آواره	<i>a:va:ra</i>	ovora (darbadar; mashg'ul)
آواز	<i>a:va:z</i>	ovoz
آوازه	<i>a:va:za</i>	ovoza (gap, shuhrat)
آهسته	<i>a:hista</i>	ohista
آهک	<i>a:hak</i>	ohak
آهن	<i>a:han</i>	ohan (temir)
آهنگ	<i>a:hang</i>	ohang (kuy, nag'ma)
آهن گر	<i>a:hangar</i>	ohangar (temirchi)
آهو	<i>a:hu:</i>	ohu (kiyik)
آیت	<i>a:yat</i>	oyat (Qur'onning har bir bandi)
آئینه	<i>a:ina</i>	oyna

(alif) ا

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
ابر	<i>abr</i>	abr (esk. bulut)
ابرا، ابره	<i>abra, abra:</i>	avra (ko'rpaning tashqi tomoni)
ابرو	<i>abru:</i>	abro' (qosh)
الابلا	<i>illa:billa:</i>	illo-billo (aslo)
ابله	<i>ablah</i>	ablah (yaramas)
ابليس	<i>ibli:s</i>	iblis (shayton)
اتابك	<i>ata:bak</i>	otabek (esk. valiahdning murabbiysi)
اتاليت	<i>ata:li:q</i>	otaliq (esk. o'qitish; yordam berish)
اتحاد	<i>ittiha:d</i>	ittihod (birlik)
اتفاق	<i>ittifa:q</i>	ittifoq (birlashish)
اتفاقاً	<i>ittifa:qan</i>	ittifoqo (tasodifan)
اثارت	<i>asa:rat</i>	asorat (salbiy ta'sir)
اثبات	<i>isba:t</i>	isbot (dalil)
اثر	<i>asar</i>	ta'sir
اشنا	<i>asna:</i>	asno (daqiqqa)
اجابت	<i>ija:bat</i>	ijobat (qabul bo'lish)
اجابي	<i>ija:bi:</i>	ijobiy

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
اجاره	<i>ija:ra</i>	ijara
اجاره دار	<i>ija:reda:r</i>	ijarador
اجازت	<i>ija:zat</i>	ijozat
اجتماع	<i>ijtima:</i>	ijtimo (olomon,yig'in)
اجتماعى	<i>ijtima:i</i>	ijtimoiy
اجتهاد	<i>ijtiha:d</i>	ijtihod (urinish)
اجداد (جمع)	<i>ajda:d</i>	ajdod
اجر	<i>ajr</i>	ajr (evaz, mukofot)
اجرا	<i>ijra:</i>	ijro
اجل	<i>ajal</i>	ajal
اجنبى	<i>ajnabi:</i>	ajnabiy
احاطه	<i>iha:ta</i>	ihota (esk. to'sib olish)
احباب	<i>ehba:b</i>	ahbob (do'stlar)
احتراس	<i>ehtira:s</i>	ehtiros (zavq-shavq)
احترام	<i>ehtira:m</i>	ehtiom
احتمام	<i>ehtila:m</i>	ihtilom
احتمال	<i>ehtima:l</i>	ehtimol
احتياج	<i>ehiya:j</i>	ehiyoj
احتياط	<i>ehiya:t</i>	ehiyot
احساس	<i>ehsa:s</i>	ehsos

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
احسان	<i>ehsa:n</i>	ehson
احكام (جمع)	<i>ehka:m</i>	ahkom (esk. qonun-qoidalar)
احتمق	<i>ehmaq</i>	ahmoq
احتمقانه	<i>ehmaq:na</i>	ahmoqona
احوال	<i>ehva:l</i>	ahvol
اخبار	<i>axba:r</i>	axbor (xabarlar)
اخبارات	<i>axba:ra:t</i>	axborot
اختراع	<i>ixtira:</i>	ixtiro
اختصاص	<i>ixtisa:s</i>	ixtisos
اختلاف	<i>ixtila:f</i>	ixtilof (ziddiyat)
اختيار	<i>ixtiya:r</i>	ixtiyor
اختياري	<i>ixtiya:ri:</i>	ixtiyoriy
اخلاص	<i>ixla:s</i>	ixlos
اخلاص مند	<i>ixla:smand</i>	ixlosmand
اخلاق	<i>axla:q</i>	axloq
اخلاقي	<i>axla:qi:</i>	axloqiy
ادا	<i>ada:</i>	ado
اداره	<i>ida:ra</i>	idora
ادب	<i>adab</i>	adab
ادبي	<i>adbi:</i>	adabiy

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
ادبيات	<i>adbiya:t</i>	adabiyot
ادراك	<i>idra:k</i>	idrok
ادعا	<i>iddaa:</i>	iddao (da'vo)
اديب	<i>adi:b</i>	adib
ادينه	<i>adi:na</i>	adina
اذان	<i>aza:n</i>	azon
اذكيا (جمع)	<i>azkiya:</i>	askiya
اذن	<i>izn</i>	izn (ijozat)
اذيت	<i>azi:yat</i>	aziyat
اراده	<i>ira:da</i>	iroda, niyat
ارباب (جمع)	<i>arba:b</i>	arbob
ارجمند	<i>arjumand</i>	arjumand (aziz farzand)
ارزاں	<i>arza:N</i>	arzon
ارض	<i>arz</i>	arz (Yer kurrasi, zamin)
ارغوان	<i>arg'ava:n</i>	arg'uvon (qizil rang)
ارم	<i>iram</i>	Eram (asfonaviy bog')
ارمان	<i>arma:n</i>	armon
ارمغان	<i>armug'a:n</i>	armug'on
ارواح	<i>arva:h</i>	arvoh
ازار	<i>iza:r</i>	ezor

اُردو	تلفظ	اُزبیک
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
از تہ دل	<i>az tehe dil</i>	astoydil
از دحام، اثر دہام	<i>izdiha:m</i>	izdihom (esk. tiqilinch)
ازل	<i>azal</i>	azal
ازلی	<i>azli:</i>	azaliy
اژدر	<i>ajdar</i>	ajdar
اژدھا	<i>ajdaha:</i>	ajdarho (katta ilon)
اسہارت	<i>asa:rat</i>	asorat
اساس	<i>asa:s</i>	asos
اساسی	<i>asa:si:</i>	asosiy
اساطیر	<i>asa:ti:r</i>	asotir (esk. rivoyatlar)
اسباب (سبب سے جمع)	<i>asba:b</i>	asbob (uskuna)
اسپ (گھوڑا)	<i>asp</i>	asp (esk. ot)
استاد (استاذ)	<i>usta:d,usta:z</i>	ustoz
استبداد	<i>istibda:d</i>	istibdod (jabr-zulm)
استحالہ	<i>istiha:la</i>	istihola (andisha,tortinish)
استحکام	<i>istehka:m</i>	istehkom
استخوان	<i>ustxva:n</i>	ustuxon
استر	<i>astar</i>	astar
استراحت	<i>istra:hat</i>	istirohat
استرہ	<i>ustura</i>	ustara

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
استعاره	<i>istia:ra</i>	istiora
استعداد	<i>isteda:d</i>	iste'dod
استعفا	<i>istefa:</i>	iste'fo
استعمال	<i>istema:l</i>	iste'mol
استقامت	<i>istiqa:mat</i>	istiqomat
استقبال (مستقبل)	<i>istiqba:l</i>	istiqbol (kelajak)
استقلال	<i>istiqla:l</i>	istiqlol (mustaqillik)
استهزا	<i>istihza:</i>	istehzo (mazah, kinoya)
اسرار (جمع)	<i>asra:r</i>	asror (sirlar)
اسراف	<i>isra:f</i>	isrof
اسلحه	<i>asliha</i>	aslaha
اسلوب	<i>uslu:b</i>	uslub
اسم	<i>ism</i>	ism
اسير	<i>asi:r</i>	asir (mahbus, bandi)
اشاره	<i>isha:ra</i>	ishora
اشتباه	<i>ishtiba:h</i>	ishtiboh (shubha)
اشتراک	<i>ishtira:k</i>	ishtirok
اشتها	<i>ishtiha:</i>	ishtaha
اشتیاق	<i>ishtiya:q</i>	ishtiyoq
اشرف	<i>ashraf</i>	ashraf (esk. eng ulug')

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
اشعار	<i>asha:r</i>	ash'or (she'rlar)
اشغال (جمع)	<i>ashg'a:l</i>	ishg'ol (zabt etish)
اشك	<i>ashk</i>	ashk (ko'z yoshi)
اشكال	<i>ishka:l</i>	ishkal (chalkashlik)
اشياء (جمع)	<i>ashya:</i>	ashyo (narsalar)
اصطراب	<i>usturla:b</i>	usturlob (esk.)
اصطلاح	<i>istila:h</i>	istiloh (atama)
اصطلاحات	<i>istila:ha:t</i>	istilohot
اصل	<i>asl</i>	asl
اصلاح	<i>isla:h</i>	isloh
اصله، اصلا	<i>asla:</i>	aslo
اصلي	<i>asli:</i>	asliy
اصول	<i>usu:l</i>	usul
اصيل	<i>asi:l</i>	asl (eng yaxshi, toza)
اضافت	<i>iza:fat</i>	izofa
اضطراب	<i>istira:b</i>	iztirob
اطاعت	<i>ita:at</i>	itoat
اطراف (جمع)	<i>atra:f</i>	atrof
اطلس (ریشمی کپڑا)	<i>atlas</i>	atlas (ipak gazlama)
اطوار	<i>atva:r</i>	atvor (fe'l-atvor)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
اعتبار	<i>etiba:r</i>	e'tibor
اعتراف	<i>etira:f</i>	e'tirof
اعزاز	<i>eza:z</i>	e'zoz
اعضا	<i>a:za:</i>	a'zo
اعلا (علی)	<i>a:la:</i>	a'lo
اعلان	<i>ela:n</i>	e'lon
اعمال (جمع)	<i>a:ma:l</i>	a'mol (ishlar)
اغوا	<i>ig'va:</i>	ig'vo
اغیار	<i>ag'ya:r</i>	ag'yor (begonalar)
افاده	<i>ifa:da</i>	ifoda
افتتاح	<i>iftita:h</i>	iftitoh (esk. boshlanish)
افتخار	<i>iftixa:r</i>	iftixor
افسانوی	<i>afsa:nvi:</i>	afsonaviy
افسانه	<i>afsa:na</i>	afsona
افسوس	<i>afso's</i>	afsus
افسون	<i>afsu:N</i>	afsun (sehr)
افسون گر	<i>afsu:Ngar</i>	afsungar (esk. sehrGAR)
افشاش	<i>afsha:N</i>	afshon (esk. tarqatuvchi; mas. nurafshon)
افضل	<i>afzal</i>	afzal
افطار	<i>ifta:r</i>	iftor

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
افغان	<i>afg'a:n</i>	afg'on
افق	<i>ufaq</i>	ufq
افلاس (ناپاك)	<i>ifla:s</i>	iflos
افيون، افيم	<i>afyu:n, afi:m</i>	afyun
اقبال	<i>iqba:l</i>	iqbol (tole, baxt)
اقتدار (حكومت؛ طاقت)	<i>iqtida:r</i>	iqtidor
اقتصاد	<i>iqtisa:d</i>	iqtisod
اقتصادى	<i>iqtisa:di:</i>	iqtisodiy
اقتصاديات	<i>iqtisa:diya:t</i>	iqtisodiyot
اقرار	<i>iqra:r</i>	iqror
اقربا (جمع)	<i>aqraba:</i>	aqrabo (yaqinlar, xesh-aqrabo)
اقربا	<i>aqraba:</i>	aqrabo (yor-do'stlar)
اقليم	<i>iqli:m</i>	iqlim
اكابر (جمع)	<i>aka:bir</i>	akobir (esk. martabali odamlar)
اكادكا	<i>ika:-duka:</i>	yakkam-dukkam
اكبر	<i>akbar</i>	akbar (esk. ulkan)
اكثُر	<i>aksar</i>	aksar
اكثريت	<i>aksari:yat</i>	aksariyat
اكرام	<i>ikra:m</i>	ikrom (hurmat)
الاؤ	<i>ala:o</i>	olov

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
البتة (بے شک، مگر)	<i>albatta</i>	albatta
التجا	<i>iltija:</i>	iltijo
التفات	<i>iltifa:t</i>	iltifot
التماس	<i>iltima:s</i>	iltimos
الخطر	<i>alhazar</i>	alhazar (hushyor bo'!)
السلام علیکم	<i>assala:mo' alaykum</i>	assalomu alaykum
الفت	<i>ulfat</i>	ulfat
الله	<i>Allah</i>	Alloh, Olloh
الم	<i>alam</i>	۱.alam (ranj, iztirob), ۲.alam (bayroq, tug')
الماس	<i>alma:s</i>	olmos
المناک	<i>alamna:k</i>	alamnok
الوان	<i>alva:n</i>	alvon
الوداع	<i>alvida:</i>	alvido
الهام	<i>ilha:m</i>	ilhom
امام	<i>ima:m</i>	imom
امامت	<i>ima:mat</i>	imomat (imomlik vazifasini bajarish)
امان	<i>ama:n</i>	omon (omonlik, muhofaza)
امان	<i>a:ma:n</i>	omon (tinchlik)
امانت	<i>ama:nat</i>	omonat

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
امتحان	<i>imteha:n</i>	imtihon
امتیاز	<i>imtiya:z</i>	imtiyoz
امداد	<i>imda:d</i>	imdod (yordam)
امر	<i>amr</i>	amr
امرا (جمع)	<i>umara:</i>	umaro (amrlar, zodagonlar)
امر معروف	<i>amre ma:ru:f</i>	amri ma'ruf
امرود	<i>amru:d</i>	olmud (nokning bir turi)
امكان	<i>imka:n</i>	imkon
امكانیت	<i>imka:ni:yat</i>	imkoniyat
املا	<i>imla:</i>	imlo
امنیت	<i>amni:yat</i>	amniyat (omonlik, xotirjamlik)
اموال (جمع)	<i>amva:l</i>	amvol (esk.mol-mulk)
امید	<i>umi:d</i>	umid
امیدوار	<i>umi:dva:r</i>	umidvor
امیر	<i>ami:r</i>	amir
امیرزاده	<i>ami:rza:da</i>	amirzoda
امین	<i>ami:n</i>	amin (imoni komil)
انار	<i>ana:r</i>	anor
انبیا (جمع)	<i>ambiya:</i>	anbiyo (payg'ambarlar)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
انتباه	<i>intiba:h</i>	intiboh (esk. ogohlantirish)
انتخاب	<i>intixa:b</i>	intixob (esk. tanlash, saylash)
انتظار	<i>intiza:r</i>	intizor
انتظام	<i>intiza:m</i>	intizom
انتقام	<i>intiqa:m</i>	intiqom
انتها	<i>intiha:</i>	intiho
انجيل	<i>injil</i>	Injil
انجمن	<i>anjuman</i>	anjuman
انجیر	<i>anji:r</i>	anjir
اندازه	<i>anda:za</i>	andoza
اندام	<i>anda:m</i>	andom
اندیشه (فکر، خوف)	<i>andesha</i>	andisha (hayo)
انس	<i>uns</i>	uns (yaqinlik, do'stlik)
انسان	<i>insa:n</i>	inson
انسانی	<i>insa:ni:</i>	insoniy
انسانیت	<i>insa:ni:yat</i>	insoniyat
انشا	<i>insha:</i>	insho
ان شاء اللہ	<i>insha:allah</i>	inshoolloh
انصاف	<i>insa:f</i>	insof
انعام	<i>ina:m</i>	in'om

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
انعكاس	<i>ineka:s</i>	in'ikos
انقلاب	<i>inqila:b</i>	inqilob
انقلابی	<i>inqila:bi:</i>	inqilobiy
انكار	<i>inka:r</i>	inkor
انگشنامه	<i>angushta:na</i>	angishvona
انواع (جمع)	<i>anva:</i>	anvo (turli-tuman)
انهار (جمع)	<i>anha:r</i>	anhor
اهالی	<i>aha:li:</i>	aholi (xalq)
اهانت	<i>iha:nat</i>	ihonat (esk. kamsitish)
اهمیت	<i>ehmi:yat</i>	ahamiyat
اوباش	<i>aoba:sh</i>	avbosh (bezori)
اوج	<i>aoj</i>	avj
اوسط	<i>aosat</i>	avsat (o'rtacha)
اوقات (جمع)	<i>aoqa:t</i>	ovqat (بمعنى كھانا)
اؤل	<i>avval</i>	avval
اولاً	<i>avvalan</i>	avvalo
اولاد (نسل)	<i>aola:d</i>	avlod
اولیا (جمع)	<i>aoliya:</i>	avliyo (birlikda)
ایاغ	<i>aya:g'</i>	ayog' (idish)
ایام (جمع)	<i>ayya:m</i>	ayyom

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
ايجاد	<i>i:ja:d</i>	ijod
ايجادكار	<i>ija:dka:r</i>	ijodkor
ايجاديات	<i>i:ja:diya:t</i>	ijodiyot
ايزا	<i>i:zza:</i>	izza (xijolat)
ايلچي	<i>elchi:</i>	elchi
ايمما	<i>i:ma:</i>	imo
ايمان	<i>i:ma:n</i>	imon (iymon)
ايوان (محل)	<i>eyva:n</i>	ayvon (برآمدہ)

ب (be)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
با (بمعنى سابقه)	<i>ba:</i>	bo - bilan, birgalikni ifodalovchi old ko'makchi
باب	<i>ba:b</i>	bob (bo'lim, qism)
بابا	<i>ba:ba:</i>	bobo
با آبرو	<i>ba:a:bru:</i>	obro'li
با ادب	<i>ba:adab</i>	boadab, odobli
با ترتيب	<i>ba:tarti:b</i>	batartib, tartibli, intizomli
با ج	<i>ba:j</i>	boj (soliq)
با جگر	<i>ba:jgi:r</i>	bojgir (<i>esk.</i> boj yig'uvchi)
با خبر	<i>ba:xabar</i>	boxabar, xabardor
با د	<i>ba:d</i>	bod (<i>esk.</i> havo), shamol
با دام	<i>ba:da:m</i>	bodom
با دشاہ	<i>ba:dsha:h</i>	podshoh
با دنجان	<i>ba:dinja:n</i>	bodinjon (baqlajon)
با دہ	<i>ba:da</i>	boda (sharob)
با دہ خور	<i>ba:da:xo'r</i>	bodaxo'r, mayxo'r
با دیان	<i>ba:dya:n</i>	bodiyon (arpabodiyon, anis)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
بار	<i>ba:r</i>	bor (marta)
بازار	<i>ba:za:r</i>	bozor
بازارگان	<i>ba:za:rga:n</i>	bozorgon (<i>esk. sotuvchi</i>)
بازاری	<i>ba:za:ri:</i>	bozori (bozorga oid)
بازوبند	<i>ba:zu:band</i>	bozuband (bilakuzukning bir turi)
باطل	<i>ba:til</i>	botil (yolg'on)
باطن	<i>ba:tin</i>	botin
باطنی (پوشیده)	<i>ba:tini:</i>	botiniy (ichki; sirli)
باعث	<i>ba:is</i>	bois (sabab)
باغ، باغچہ	<i>ba:g', ba:g'cha</i>	bog', bog'cha
باغات	<i>ba:g'a:t</i>	bog'ot (bog'lar)
باغبان	<i>ba:g'ba:n</i>	bog'bon
باغبانی	<i>ba:g'ba:ni:</i>	bog'dorchilik
باغ و بہار	<i>ba:g'o' baha:r</i>	bog'u bahor
بافندہ	<i>ba:fanda</i>	bofanda (<i>esk. to'quvchi</i>)
باقی	<i>ba:qi:</i>	boqiy
باقی ماندہ	<i>ba:qi:ma:nda</i>	boqimanda (oldindan qolgan)
باکرہ	<i>ba:kira</i>	bokira (iffatli)
بالا	<i>ba:la:</i>	bolo (tepa, yuqori)
بالا خانہ	<i>ba:la:xa:na</i>	boloxona

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
باش	<i>ba:lish</i>	bolish (suyanchiq)
بالعكس	<i>bilaks</i>	bil'aks (aksincha)
بالعموم	<i>bilumu:m</i>	bilumum (umuman)
بالفعل	<i>bilfe'l</i>	bilfe'l (esk.)o'zicha
بالمثل	<i>bilmisl</i>	bilmisl (misli yo'q)
بالواسطه	<i>bilva:sta</i>	bilvosita (to'g'ridan - to'g'ri)
بامداد	<i>ba:mda:d</i>	bomdod, sahar
باوجود	<i>ba:vuju:d</i>	bovujud(esk. shunga qaramay)
باور	<i>ba:var</i>	bovar (ishonch)
باورچى	<i>ba:varchi:</i>	bovarchi, bovurchi (esk. oshpaz)
بت	<i>but</i>	but (sanam)
بت پرست	<i>butparast</i>	butparast
بت پرستى	<i>butparasti:</i>	butparastlik
بت خانه	<i>butxa:na</i>	butxona
بترتيب	<i>batarti:b</i>	batartib (tartib bilan berilgan)
بجا	<i>baja:</i>	bajo (durust)
بچگانہ، بچگانہ	<i>bajga:na, bachkana</i>	bachkana (bolalarcha, katta kishilarga yarashmaydigan)
بچہ	<i>bachcha</i>	bacha

اُردو	تلفظ	اُزبیک
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
بچہ دان	<i>bachchada:n</i>	bachadon
بحث	<i>behs</i>	bahs
بحث مباحثہ	<i>behs-muba:hisa</i>	bahs-mubohasa
بحر	<i>behr</i>	۱. dengiz; ۲. bahr (she'riyatga oid atama)
بحران	<i>bo'hra:n</i>	bo'hron (inqiroz)
بخت	<i>baxt</i>	baxt
بخدا	<i>baxuda:</i>	xudo haqqi
بخش (سابقہ)	<i>baxsh</i>	baxsh (so'z oxirida keladi)
بخشش (صدقہ)	<i>baxshish</i>	baxshish
بخشش	<i>baxshi:</i>	baxshi (داستانیں گانے والا)
بخیر	<i>baxeyr</i>	baxayr (xayrli, yaxshi)
بخیل (کنجوس)	<i>baxi:l</i>	baxil, ziqna
بخیہ	<i>baxya</i>	baxya (chok)
بد	<i>bad</i>	bad (yomon)
بد اخلاق	<i>badaxla:q</i>	badaxloq
بد بخت	<i>badbaxt</i>	badbaxt
بد بختی	<i>badbaxti:</i>	baxtsizlik
بدبو	<i>badbu:</i>	badbo'y
بدتر	<i>badtar</i>	battar

اُردو	تلفظ	اُزبیک
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
بدخط	<i>badxat</i>	badxat (xati xunuk)
بدخواہ	<i>badxva:h</i>	badxoh (buzuq niyatli)
بدخطی	<i>badxati:</i>	badxatlik (xati xunuklik)
بدذات	<i>badza:t</i>	badzot (tagi past)
بدر	<i>badr</i>	badar (g'oyib bo'lish)
بدستور	<i>badastu:r</i>	badastir (bekamu ko'st)
بدعت	<i>bidat</i>	bid'at
بدکار	<i>badka:r</i>	badkor (yomon, qabih)
بدکاری	<i>badka:ri:</i>	badkorlik
بدکردار	<i>badkirda:r</i>	badkirdor (yaramas odam)
بدگمان	<i>badgu:ma:n</i>	badgumon (shubha qiluvchi)
بدل	<i>badal</i>	badal (evaz)
بدن	<i>badan</i>	badan
بدنام	<i>badna:m</i>	badnom
بدولت (کے طفیل)	<i>badaolat</i>	badavlat (boy)
بدیع	<i>badi:</i>	badiiy (san'at, ijod bilan bog'liq)
بدیہا	<i>badi:ha:</i>	badiha (birdaniga)
بدیہاگوئی	<i>badi:ha:go'i:</i>	badihago'ylik (hozirjavoblik bilan aytilgan gap va h.k.z.)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
برابر	<i>bara:bar</i>	barobar, baravar
برادر	<i>bira:dar</i>	birodar
برادرانه	<i>bira:dara:na</i>	birodarona
برار	<i>bara:r</i>	baror
برآمد (ایکسپورٹ)	<i>bara:mad</i>	buromad (chiqim; eksport)
برآں	<i>burra:N</i>	burro (o'tkir, biyron)
برباد	<i>barba:d</i>	barbod
برپا	<i>barpa:</i>	barpo
برج	<i>burj</i>	burj (۱۲ ta yulduz turkumi)
برطرف	<i>bartaraf</i>	bartaraf
برق	<i>barq</i>	barq (yashin)
برکت	<i>barkat</i>	baraka
برگ	<i>barg</i>	barg
برنا	<i>barna:</i>	barno (kelishgan)
برہ (بھیڑ کا بچہ)	<i>barra</i>	barra (qo'zichoq)
بروقت	<i>barvaqt</i>	barvaqt (ertaroq, vaqtli)
برہم	<i>barham</i>	barham (parishon)
بریدہ	<i>huri:da</i>	burda, parcha
بزاز	<i>bazza:z</i>	bazzoz (<i>esk. gazlamafurush</i>)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
بزرگ	<i>buzurg</i>	buzruk (<i>esk. katta, ulug'</i>)
بزرگوار	<i>buzurgva:r</i>	buzrukvor (olijanob)
بزم	<i>bazm</i>	bazm (o'yin-kulgu)
بزم گاه	<i>bazmga:h</i>	bazmgoh
بزور	<i>bazor</i>	bazor (kuch bilan, zo'rg'a)
بساط	<i>bisa:t</i>	bisot (mol-dunyo)
بسیار	<i>bisya:r</i>	bisyor(ko'p)
بشارت	<i>basha:rat</i>	bashorat
بشر	<i>bashar</i>	bashar (odamzod)
بشره	<i>bushra</i>	bashara (yuz, bet)
بشری	<i>bashri:</i>	bashariy
بشریت	<i>bashri:yat</i>	bashariyat (insoniyat)
بصیر	<i>basi:r</i>	basir (ko'r-basir)
بصیرت	<i>basi:rat</i>	basirat (ko'ra olish qobiliyati)
بطل	<i>batta:l</i>	battol (<i>esk. yaramas, razil</i>)
بعد، بعد از	<i>ba:d, ba:daz</i>	ba'd, ba'daz, keyin
بعض	<i>ba:z</i>	ba'zi
بغچه، بقیچہ	<i>bug'cha, buqcha</i>	bo'qcha (bo'xcha, xalta)
بغیچہ	<i>bag':cha</i>	bog'cha

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
بقا	<i>baqa:</i>	baqo (abadiy)
بقال	<i>baqqa:l</i>	baqqol
بقر عید	<i>baqre i:yd</i>	baqre-iyd (qurbon hayiti)
بقیہ	<i>baqi:ya</i>	baqiya (qoldiq)
بکاول (بمعنی خاناماں)	<i>baka:vul</i>	bakovul (<i>esk. oshpaz</i>)
بلبل	<i>bulbul</i>	bulbul
بلر	<i>billur</i>	billur
بلغم	<i>balg'am</i>	balg'am
بلند	<i>buland</i>	baland
بمثال	<i>bamisa:l</i>	bamisoli
بنا	<i>bina:</i>	bino (imorat)
بند	<i>band</i>	band (to'silgan, yopilgan)
بندہ	<i>banda</i>	banda
بندی	<i>bandi:</i>	bandi (asir)
بنفشہ	<i>banafsha, binafsha</i>	binafsha
بنگ، بھنگ	<i>bang, bhang</i>	bang (nasha)
بنگی، بھنگی	<i>bangi:, bhangi:</i>	bangi (nashavand)
بنی بشر	<i>bani: bashar</i>	banibashar (odamzod)
بنیاد	<i>bunya:d</i>	bunyod
بو	<i>bu:</i>	bo'y (hid, is)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
بواسير	<i>bava:si:r</i>	bavosir
بو تا	<i>bo'ta</i>	bo'ta (tuyaning bolasi)
بوٹا	<i>bu:Ta:</i>	buta (naqshning bir turi)
بوریا	<i>bo'rya:</i>	bo'yra (sholcha)
بو زہ	<i>bo'za:</i>	bo'za (kayf beradigan ichimlik)
بوسہ	<i>bu:sa</i>	bo'sa
بو قلموں (گرگٹ)	<i>buqalamu:N</i>	buqalamun (xameleon)
بہا	<i>baha:</i>	baho (narx)
بہادر	<i>baha:dur</i>	bahodir
بہادرانہ	<i>baha:dura:na</i>	bahodirona, mardona
بہادری	<i>baha:duri:</i>	bahodirlik (jasorat)
بہار	<i>baha:r</i>	bahor
بہارستان	<i>baha:rista:n</i>	bahoriston
بہاری	<i>baha:ri:</i>	bahoriy
بہبود	<i>behbu:d</i>	behbud (<i>esk.</i> xushhol)
بہتان	<i>bo'hta:n</i>	bo'hton
بہتر	<i>behtar</i>	behtar (yaxshiroq)
بہرہ	<i>behra</i>	bahra (huzur, rohat)
بہرہ مند	<i>behramand</i>	bahramand
بہشت	<i>behisht</i>	bihisht(jannat)

اُردو	تلفظ	اُزبیک
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
بہم	<i>baham</i>	baham (birgalikda)
بہی	<i>behi:</i>	behi
بے (انکار کا سابقہ)	<i>be</i>	be (inkor ma'nosini beradigan prefiks)
بے پردہ	<i>beparda</i>	beparda
بے رحم	<i>berehm</i>	berahm
بیابان	<i>baya:ba:n</i>	biyobon
بے آبرو	<i>bea:bru:</i>	beobro'
بے اختیار	<i>beixtiya:r</i>	beixtiyor
بے ادب	<i>beadab</i>	beadab
بے آرامی	<i>bea:ra:mi:</i>	beoromlik
بیاض	<i>baya:z</i>	bayoz (she'riy to'plam)
بیان	<i>baya:n</i>	bayon
بیانات	<i>baya:na:t</i>	bayonot
بے اندیشہ	<i>beandasha</i>	beandisha
بے باک	<i>beba:k</i>	bebok (qo'rqmas, jasur)
بے بہا	<i>bebaha:</i>	bebaho
بے بہرہ	<i>bebehra</i>	bebahra (foydasi yo'q)
بے پایاں	<i>bepa:ya:n</i>	bepoyon
بے پروا	<i>beparva:</i>	beparvo
بے ترتیب	<i>betarti:b</i>	betartib

اُردو	تلفظ	اُزبیک
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
بے ترتیبی	<i>betarti:bi:</i>	tartibsizlik
بے تکلف	<i>betakalluf</i>	betakalluf
بے تمیز	<i>betami:z</i>	betamiz (befahm)
بے ثمر	<i>besamar</i>	besamar (befoyda)
بے جا	<i>beja:</i>	bejo (o'rinsiz, nojo'ya)
بے جان	<i>beja:n</i>	bejon
بے چارگی	<i>becha:ragi:</i>	bechoralik (ilojsizlik)
بے چارہ	<i>becha:ra</i>	bechora
بے حال	<i>beha:l</i>	behol (bemajol)
بے حد	<i>behad</i>	behad (cheksiz)
بے حرمتی	<i>behurmati:</i>	hur matsizlik
بے حساب	<i>behisa:b</i>	behisob
بے حیا	<i>behaya:</i>	behayo
بے خبر	<i>bexabar</i>	bexabar
بے خطا	<i>bexata:</i>	bexato
بے خود	<i>bexu:d</i>	bexud (parishon)
بے دار	<i>beda:r</i>	bedor
بے داری	<i>beda:ri:</i>	bedorlik (sergaklik)
بیرق (بمعنی پرچم)	<i>beyraq</i>	bayroq
بے زار	<i>beza:r</i>	bezor

اُردو	تلفظ	اُزبیک
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
بے سبب	<i>besabab</i>	besabab
بے شرم	<i>besharm</i>	besharm (uyatsiz)
بے صبری	<i>besabri:</i>	besabrlik
بے ضرر	<i>bezarar</i>	bezarar
بے طرف	<i>betaraf</i>	betaraf
بے عیب	<i>beeyb</i>	beayb
بے غرض	<i>beg'araz</i>	beg'araz
بے غم	<i>beg'am</i>	beg'am
بے فائدہ	<i>befa:ida</i>	befoyda
بے فیض	<i>befeyz</i>	befayz
بیک، بیگ	<i>bek, beg</i>	bek , beg
بے کم دکاست	<i>bekamo' ka:st</i>	bekamu ko'st
بے گانہ	<i>bega:na</i>	begona (yot, notanish)
بیگم	<i>begam</i>	begim
بے گناہ	<i>beguna:h</i>	begunoh
بیل، بیچہ	<i>bel, belcha</i>	bel, belcha (belkurak)
بیمار	<i>bi:ma:r</i>	bemor
بے مثال	<i>bemisa:l</i>	bemisl (mislisiz, bemisol)
بے مجال	<i>bemaja:l</i>	bemajol (zaif)
بے محل	<i>bemehel</i>	bemahal (noo'rin)

اُردو	تلفظ	اُزبیک
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
بے مروت	<i>bemuruvvat</i>	bemuruvvat
بے مزہ	<i>bemaza</i>	bemaza
بے معنی	<i>bema:ni:</i>	bema'ni
بے نصیب	<i>benasi:b</i>	benasib
بے نظیر	<i>benazi:r</i>	benazir (mislsiz)
بے نوا	<i>benava:</i>	benavo (bechora)
بیہودہ	<i>behu:da</i>	behuda
بے وفا	<i>bevafa:</i>	bevafo
بے وقت	<i>bevaqt</i>	bevaqt (bemahal)
بیوہ	<i>beva</i>	beva

پ (pe)

اُردو	تلفظ	اُزبیک
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
پا	<i>pa:</i>	poy (oyoq)
پا افزار، پائے افزار	<i>pa:afza:r, pa:e afza:r</i>	poyafzal
پا انداز، پائے انداز	<i>pa: anda:z, pa:e anda:z</i>	poyandoz
پاپا	<i>pa: bapa:</i>	poyma-poy
پاجامہ	<i>pa:ja:ma</i>	poyjoma
پاچہ	<i>pa:cha</i>	pocha
پادشاہ	<i>pa:dsha:h</i>	podshoh
پارچہ	<i>pa:rcha</i>	parcha (bo'lak, qism)
پارسا	<i>pa:rsa:</i>	porso (toza, pok), xudojo'y
پارہ	<i>pa:ra</i>	pora (laxtak, parcha)
پاسبان	<i>pa:sba:n</i>	posbon(qo'riqlovch)
پاسنگی، پستنگی	<i>pa:saNgi:, pasaNgi:</i>	posangi (taroziga qo'yiladigan qo'shimcha tosh)
پاشنہ	<i>pa:shna</i>	poshna (tovon)
پاغانا	<i>pa:g'a:na</i>	pog'ona (pillapoya)
پاک	<i>pa:k</i>	pok (toza)
پاک نیت	<i>pa:kni:yat</i>	niyati pok , toza

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
پاڪدامن	<i>pa:kda:man</i>	pokdomon (iffatli ayol)
پاڪيزه	<i>pa:ki:za</i>	pokiza
پاليز، فاليز	<i>pa:li:z, fa:li:z</i>	poliz
پامال، پامال	<i>pa:ma:l, pa:yma:l</i>	poymol
پانا	<i>pa:na:</i>	pona (uchi tig'li asbob)
پائے تخت	<i>pa:etaxt</i>	poytaxt
پايا	<i>pa:ya:</i>	poya (zinapoya)
پائے تابه	<i>pa:eta:ba</i>	paytava
پائے دان	<i>pa:eda:n</i>	poydon (zinapoya)
پائے ديوار	<i>pa:e di:va:r</i>	poydevor
پٹا (پٹا)	<i>paTTa: , patta</i>	patta (ruxsatnoma)
پختگی	<i>puxtagi:</i>	puxtalik
پختہ	<i>puxta</i>	puxta
پدر (بمعنی باپ)	<i>padar</i>	padar (ota)
پدر بزرگوار	<i>padare buzurgva:r</i>	padari buzrukvor
پدرکش	<i>padarkush</i>	padarkush
پُر (سابقہ)	<i>pur</i> (بھرا ہوا)	(old qo'shimcha) pur (to'la) , mukammal
پراگندگی	<i>para:gandagi:</i>	parokandalik
پراگندہ	<i>para:ganda</i>	parokanda

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
پرتو	<i>partav</i>	partav (nur, shu'la)
پرچہ	<i>parcha</i>	parcha, bo'lak
پرچین	<i>parchi:n</i>	parchin (mix)
پُرخلوص	<i>purxulu:s</i>	purxulus (samimiy)
پرداز	<i>parda:z</i>	pardoz
پردہ	<i>parda</i>	parda
پردہ دار	<i>pardada:r</i>	pardador (pardali)
پرورش	<i>parvarish</i>	parvarish
پُر و قار	<i>purviqa:r</i>	purviqor(viqorli)
پرکار، پرگار	<i>parka:r, parga:r</i>	pargar (sirkul)
پرما	<i>parma:</i>	parma (drel)
پُر معنی	<i>purma:ni:</i>	purma'no (ma'noli)
پرندہ	<i>parinda</i>	parranda
پرہیز	<i>parhez</i>	parhez
پرہیزگار	<i>parhezga:r</i>	parhezgor (parhez qiluvchi)
پرہیزی	<i>parhezi:</i>	parhezlik
پر وا	<i>parva:</i>	parvo
پرواز	<i>parva:z</i>	parvoz
پر وانہ	<i>parva:na</i>	parvona
پروردگار	<i>parvardiga:r</i>	parvardigor

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
پرى	<i>pari:</i>	pari
پرى پىكار	<i>pari: peykar</i>	pari-paykar (sohibjamol)
پرى رخصار	<i>pari: ruxsa:r</i>	pariruxsor (go'zal)
پرى زاد	<i>pari:za:d</i>	parizod
پرى وش	<i>pari:vash</i>	parivash
پرى شان	<i>paresha:n</i>	parishon
پرى شان خاطر	<i>paresha:nxa:tir</i>	parishonxotir
پژمرده	<i>pajmurda</i>	pajmurda (g'amgin, so'lg'in)
پس انداز	<i>pasanda:z</i>	pasandoz
پست	<i>past</i>	past
پست و بلند	<i>pasto ' buland</i>	past-baland
پسته	<i>pista</i>	pista
پستى	<i>pasti:</i>	pastkashlik
پُشت	<i>pusht</i>	pusht
پشت پناه	<i>pushte pana:h</i>	pushtipanoh(himoyachi, yordamchi)
پشته	<i>pushta</i>	pushta (bo'sh joy)
پشمک	<i>pashmak</i>	pashmak
پشه (بمعنى چھر)	<i>pashsha</i>	pashsha
پشيمان	<i>pashema:n</i>	pushaymon

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
پل، پول	<i>pul , pu:l</i>	pul (ko'prik)
پلاس (ٹاٹ)	<i>pala:s</i>	palos (sholcha)
پلاؤ	<i>pula:o</i>	palov
پلہ، پلا	<i>palla, palla:</i>	palla(tarozining kosasi)
پلید	<i>pali:d</i>	palid
پناہ	<i>pana:h</i>	panoh
پنج شاخہ	<i>panjsha:xa</i>	panshaxa
پنجرہ	<i>pinjra</i>	panjara
پنچہ	<i>panja</i>	panja
پند نصیحت	<i>pand-nasihah</i>	pand-nasihah
پنہاں	<i>pinha:N</i>	pinhon
پوچ، پوچک	<i>pu:ch, pu:chak</i>	puch, puchak (ichi bo'sh, g'ovak)
پوست (بمعنی کھال)	<i>po'st</i>	po'st (teri, qobiq)
پوست کندہ	<i>po'stkanda</i>	po'stkalla (gapning qisqasi), lo'ndasi
پوستین	<i>po'stin</i>	po'stin (issiq chopon)
پوش، پوشت	<i>po'sh , po'sht</i>	esk. "yo'l bering"
پوشاک	<i>po'shak</i>	po'shak (kiyim, libos)
پوشیدہ	<i>po'shi:da</i>	po'shida(sirli , axfiy)
پوک، پھوک	<i>po'k</i>	po'k(ichi bo'sh, g'ovak)
پول	<i>pu:l</i>	pul(esk. pul, aqcha)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
پولاد (نولاد)	<i>pu:la:d</i>	po'lat
پهلوان	<i>pehelva:n</i>	pahlavon
پے	<i>pey</i>	pay (oyoq;qadam)
پے بہ پے	<i>pey ba pey</i>	poyma-poy
پیادہ	<i>piya:da</i>	piyoda
پیاز	<i>pya:z</i>	piyoz
پیالہ	<i>pya:la</i>	piyola
پچ	<i>pech</i>	pech (jingalak, halqa)
پچک	<i>pechak</i>	pechak (chirmoviq)
پیدا	<i>peyda:</i>	paydo
پیر	<i>pi:r</i>	pir (qari,keksa)
پیرو	<i>peyrav</i>	payrov (izdosh)
پیس (ایک بیماری)	<i>pes</i>	pes (teri kasalligi)
پیش	<i>pesh</i>	pesh
پیشاب	<i>pesha:b</i>	peshob
پیشانی	<i>pesha:ni:</i>	peshona
پیشہ	<i>pesha</i>	pesha(kasb, hunar)
پیشین	<i>peshi:n</i>	peshin
پیغام، پیام	<i>peyg'a:m, paya:m</i>	payg'om, payom(maktub)
پیغامبر	<i>peyg'a:mbar</i>	payg'ambar

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
پركان	<i>peyka:n</i>	paykon (kamon o'qi, nayzacha)
پيل، فيل (هاتھی)	<i>pi:l, fi:l</i>	fil
پيلا، پيلہ	<i>pi:lla:</i>	pilla qurti
پيمان	<i>peyma:n</i>	paymona (ahd, va'da)
پيمانہ	<i>peyma:na</i>	paymona (qadah, piyola)
پيوست (پيوستہ)	<i>peyvast, peyvasta</i>	payvast, payvasta (ulangan, tutashgan)
پيوند	<i>peyvand</i>	payvand qilish, ulash

ت / ٹ (te)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
تاابد	<i>ta:abad</i>	toabad (abadiy)
تاب	<i>ta:b</i>	tob
تابان	<i>ta:ba:n</i>	tobon (porloq, yorqin)
تابع	<i>ta:be</i>	tobe
تابوت	<i>ta:bu:t</i>	tobut
تابہ، توا	<i>ta:ba, tava</i>	tova
تاثر	<i>ta:sur</i>	taassurot
تاثرات	<i>ta:sura:t</i>	taassurot
تاثير	<i>ta:si:r</i>	ta'sir
تاج	<i>ta:j</i>	toj
تاجدار	<i>ta:jda:r</i>	tojdor
تاجر	<i>ta:jir</i>	tojir (savdogar)
تاخير	<i>ta:xi:r</i>	ta'xir (esk. orqaga surish, qoldirish)
تار (ايك ساز کا نام)	<i>ta:r</i>	tor (cholg'u asbobi)
تارمار	<i>ta:r ma:r</i>	tor-mor (parokandalik, tartibsizlik)
تاریخ	<i>ta:ri:x</i>	tarix
تاریخاً	<i>ta:ri:xan</i>	tarixan (tarix jihatidan)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
تاریخ شناس	<i>ta:ri:xshina:s</i>	tarixshunos
تاریخ نویس	<i>ta:ri:xnavi:s</i>	tarixnavis
تاریخی	<i>ta:ri:xi:</i>	tarixiy
تازگی	<i>ta:zagi:</i>	tozalik (tiniqlik)
تازه	<i>ta:za</i>	toza, sof
تازی	<i>ta:zi:</i>	tozi (ov iti)
تا سّف	<i>ta:ssuf</i>	taassuf (afsus)
تا سیس	<i>ta:si:s</i>	ta'sis (joriy etish)
تا ک	<i>ta:k</i>	tok (uzum novdasi)
تا که	<i>ta:ke</i>	toki
تا کید	<i>ta:ki:d</i>	ta'kid (qayd etish)
تالان تاراج	<i>ta:la:n-ta:ra:j</i>	talon-taroj (qilish)
تا مل	<i>ta:mmul</i>	taammul
تاوان	<i>ta:va:n</i>	tovon (jarima)
تبدیل	<i>tabdi:l</i>	tabdil (o'zgarish)
تبرک	<i>tabarruk</i>	tabarruk
تبریک	<i>tabri:k</i>	tabrik
تبسم	<i>tabassum</i>	tabassum
تپنچہ (بمعنی پستول)	<i>tapancha</i>	to'pponcha
تتبع	<i>tatabbo</i>	tatabbu (taqlid qilish, ergashish)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
تسنى	<i>tasanna:</i>	tasanno
تجار (جمع)	<i>tujja:r</i>	tujjor (savdogarlar)
تجارت	<i>tija:rat</i>	tijorat
تجاوز	<i>taja:vuz</i>	tajovuz
تجربه	<i>tajruba</i>	tajriba
تجربه كار	<i>tajrubaka:r</i>	tajribakor
تجسس	<i>tajassum</i>	tajassum (esk. ifoda belgisi)
تجلى	<i>tajalli:</i>	tajalli (jilva)
تجمل	<i>tajammul</i>	tajammul (go'zallik, bezatish)
تجنيس	<i>tajni:s</i>	tajnis (talaffuzi bir xil so'zlar, omonim)
تجويد	<i>tajvi:d</i>	tajvid (Qur'onni qiroat bilan o'qish)
تهديد	<i>tehdi:d</i>	tahdid (xavf-xatar)
تحرير	<i>tehri:r</i>	tahrir (tuzatish)
تحريرى	<i>tehri:ri:</i>	tahririy
تحسين	<i>tehsi:n</i>	tahsin (maqto'v)
تحفة	<i>to' hfa</i>	tuhfa
تحقير	<i>tehqi:r</i>	tahqir (xo'rlash)
تحقير آميز	<i>tehqi:ra:mez</i>	tahqiromuz
تحقيق	<i>tehqi:q</i>	tahqiq, tadqiq

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
تحقیقات	<i>tehqi:qa:t</i>	tadqiqot
تحلیل	<i>tehli:l</i>	tahlil
تحمل	<i>tahammul</i>	tahammul (sabr-toqat)
تحویل	<i>tehvi:l</i>	tahvil (ixtiyor)
تخت	<i>taxt</i>	taxt
تختِ رواں	<i>taxte rava:N</i>	taxtiravon
تختہ	<i>taxta</i>	taxta
تخلص	<i>taxallus</i>	taxallus
تخم	<i>tuxm</i>	tuxum
تخمین (تخمینہ)	<i>taxmi:n, taxmi:na</i>	taxmin
تخمیناً	<i>taxmi:nan</i>	taxminan
تخیل	<i>taxayyul</i>	taxayyul (xayol qilish, tasavvur)
تدارک	<i>tada:ruk</i>	tadorik (tuzatish, tiklash)
تدبیر	<i>tadbi:r</i>	tadbir (chora, yo'l)
تدبیر کار	<i>tadbi:rka:r</i>	tadbirkor
تدریج	<i>tadri:j</i>	tadrij (asta-sekin)
تدریس	<i>tadri:s</i>	tadris (o'qitish)
تدقیق	<i>tadqi:q</i>	tadqiq, tahqiq
تدقیقات	<i>tadqi:qa:t</i>	tadqiqot
تدقیقی	<i>tadqi:qi:</i>	tadqiqiy

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
تذکرہ	<i>tazkira</i>	tazkira
تراب (خاک)	<i>tura:b</i>	turob (tuproq)
ترازو	<i>tara:zu:</i>	tarozi
تراش	<i>tara:sh</i>	tarash (kesish; qirish)
ترانہ	<i>tara:na</i>	tarona (kuy, ohang)
تراویح	<i>tara:vi:h</i>	tarovih
تُرب	<i>turb</i>	turp
تربت	<i>turbat</i>	turbat (mozor; maqbara)
تربوز	<i>tarbu:z</i>	tarvuz
تربیت	<i>tarbi:yat</i>	tarbiya
ترتیب	<i>tarti:b</i>	tartib
ترجمان	<i>tarjuma:n</i>	tarjimon, vakil
ترجمہ	<i>tarjuma</i>	tarjima
ترجیع بند	<i>tarji:band</i>	tarjiband
ترحم	<i>tarahhum</i>	tarahhum (rahm qilish)
تردد	<i>taraddud</i>	taraddud (harakat qilish)
ترسا	<i>tarsa</i>	tarso (esk.g'ayridin, kofir)
ترش	<i>tursh</i>	tursh (nordon; qo'pol)
ترغہ	<i>turg'a</i>	to'rg'ay
ترغیب	<i>targ'i:b</i>	targ'ib (yoyish)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
ترغیبات	<i>targ'i:ba:t</i>	targ'ibot
ترقی	<i>taraqqi:</i>	taraqqiy
ترقیات	<i>taraqqiya:t</i>	taraqqiyot
ترقی پرور	<i>taraqqi:parvar</i>	taraqqiyparvar
ترک	<i>tark</i>	tark
تُرک	<i>turk</i>	turk
ترکی	<i>turki:</i>	turkiy (turkiy tili)
ترکیب	<i>tarki:b</i>	tarkib
ترکیباً	<i>tarki:ban</i>	tarkiban (tarkib jihatidan)
ترناؤ (پختہ نہر)	<i>tarna:o</i>	tarnov
ترنگ	<i>tarang</i>	tarang
ترنم	<i>tarannum</i>	tarannum
ترویج	<i>tarvi:j</i>	rivoj, yoyish
تریاق	<i>tirya:q</i>	taryoq (zaharga qarshi dori)
تڑک، تڑوک	<i>tuzuk, tuzu:k</i>	tuzuk (tar. qonun, qoidalar to'plami)
تسبیح	<i>tasbi:h</i>	tasbih
تسکین	<i>taski:n</i>	taskin (tinchlanish; orom)
تسلی	<i>tasalli:</i>	tasalli (taskin berish)
تسلیم	<i>tasli:m</i>	taslim (tan olish)
تسمہ	<i>tasma</i>	tasma (lenta)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
تشبيه	<i>tashbi:h</i>	tashbih (majoz)
تشخيص	<i>tashxi:s</i>	tashxis (aniqlash)
تشديد	<i>tashdi:d</i>	tashdid (arab yozuvidagi kuchaytirish belgisi)
تشریح	<i>tashri:h</i>	tashrih (sharh)
تشریف	<i>tashri:f</i>	tashrif
تشکر	<i>tashakkur</i>	tashakkur
تشکُل	<i>tashakkul</i>	tashakkul (esk. shakllanish)
تشکیل	<i>tashki:l</i>	tashkil
تشکیلات (جمع)	<i>tashki:la:t</i>	tashkilot (muassasa)
تشنه	<i>tashna</i>	tashna (chanqoq)
تشنه لب	<i>tashnalab</i>	tashnalab
تشویش	<i>tashvi:sh</i>	tashvish
تشویش مند	<i>tashvi:shmand</i>	tashvishmand
تشویش ناک	<i>tashvi:shna:k</i>	tashvishnok (tashvishli)
تشویق	<i>tashvi:q</i>	tashviq (undash)
تشهد	<i>tashahhud</i>	tashahhud (kalimai shahodatni tilovat qilish)
تصادف	<i>tasa:dif</i>	tasodif (kutilmagan hol)
تصادفاً	<i>tasa:difan</i>	tasodifan (to'satdan, birdaniga)
تصدق	<i>tasadduq</i>	tasadduq

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
تصدیق	<i>tasdi:q</i>	tasdiq
تصرف	<i>tasarruf</i>	tasarruf (egalik)
تصرفات	<i>tasarrufa:t</i>	tasarrufot (o'z ixtiyoriga olish)
تصرفاً	<i>tasarrufan</i>	tasarrufan
تصع	<i>tasanna</i>	tasanno (ofarin)
تصنيف	<i>tasni:f</i>	tasnif (asar)
تصوّر	<i>tasavvur</i>	tasavvur (xayol; tushuncha)
تصوّف	<i>tasavvuf</i>	tasavvuf
تصویر	<i>tasvi:r</i>	tasvir
تصویری	<i>tasvi:ri:</i>	tasviriy
تضاد	<i>taza:d</i>	tazod (qarama-qarshilik)
تضادات (جمع)	<i>taza:da:t</i>	tazodot
تضرع	<i>tazarro</i>	tazarru (uzr)
تضمین	<i>tazmin</i>	tazmin (she'riy san'at turi)
تضیق	<i>tazyi:q</i>	tazyiq (ezish, jabrlash)
تطبیق	<i>tatbi:q</i>	tatbiq (ishga solish)
تعاقب، تعقب	<i>taa:qub, ta:qib</i>	ta'qib (iziga tushish)
تعالی	<i>taa:la:</i>	taolo (Alloh)
تعب	<i>ta:b</i>	ta'b (tabiat)
تعبیر	<i>ta:bi:r</i>	ta'bir

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
تَجَبُّب	<i>ta:jjub</i>	taajjub
تَعْدِي	<i>ta:ddi:</i>	taaddi (zulm, jabr, po'pisa)
تَعْرُض	<i>ta:rruz</i>	taarruz (esk.e'tiroz)
تَعْرِيف	<i>ta:ri:f</i>	ta'rif
تَعْزِيْر	<i>ta:zi:r</i>	ta'zir (dashnom)
تَعْزِيْه	<i>ta:ziya</i>	ta'ziya (bildirish)
تَعْزِيْه نَامَه	<i>ta:ziyana:ma</i>	ta'ziyanoma
تَعْصَب	<i>ta:ssub</i>	taassub (ko'r-ko'rona berilish)
تَعْطِيْل	<i>ta:ti:l</i>	ta'til
تَعْظِيْم	<i>ta:zi:m</i>	ta'zim (hurmat)
تَعْقِيْب	<i>ta:qi:b</i>	ta'qib (quvish, iziga tushish)
تَعْلُق	<i>ta:lluq</i>	taalluq (aloqa)
تَعْلُق دَار، تَعْلُقَه دَار	<i>ta:lu:qda:r</i>	taalluqdor (aloqador)
تَعْلِيْم	<i>ta:li:m</i>	ta'lim
تَعْلِيْمَات	<i>ta:li:ma:t</i>	ta'limot
تَعْلِيْمِي	<i>ta:li:mi:</i>	ta'limiy
تَعْمِيْر	<i>ta:mi:r</i>	ta'mir (qurish, tuzatish)
تَعْمِيْرَات (جَمْع)	<i>ta:mi:ra:t</i>	ta'mirot (esk. qurilishlar)
تَعْيِيْن	<i>tayun</i>	tayin (aniqlash)
تَغَار	<i>tag'a:r</i>	tog'ora

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
تخافل	<i>tag'a:ful</i>	tag'ofil (esk.g'ofillik)
تُغرا	<i>tug'ra:</i>	tug'ro (yorliq belgisi)
تغیر	<i>tag'ayyur</i>	tag'ayyur (o'zgarish)
تفاوت	<i>tafa:vut</i>	tafovut (farq)
تف، تفت	<i>taf, taft</i>	taft (harorat, isitma)
تفتیش	<i>tafti:sh</i>	taftish (tergov)
تفریق	<i>tafri:q</i>	tafriq (farq)
تفسیر	<i>tafsi:r</i>	tafsir (izoh, sharh)
تفصیل	<i>tafsi:l</i>	tafsil (to'la bayon qilish)
تفصیلاً	<i>tafsi:lan</i>	tafsilan (mufassal)
تفصیلی	<i>tafsi:li:</i>	tafsiliy
تفکر	<i>tafakkur</i>	tafakkur
تفنگ	<i>tufang</i>	tufang (esk. pilta miltiq)
تفنگچہ	<i>tufangcha</i>	to'pponcha
تفہیم	<i>tafhi:m</i>	tafhim (fahm)
تقابل	<i>taqa:bul</i>	taqobil (muqobil, yuzma-yuz)
تقاضا	<i>taqa:za:</i>	taqozo (talab)
تقدیر	<i>taqdi:r</i>	taqdir
تقدیم	<i>taqdi:m</i>	taqdim etish (tanishtirish)
تقریباً	<i>taqri:ban</i>	taqriban (taxminan)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
تقریبی	<i>taqri:bi:</i>	taqribiy (taxminiy)
تقریر	<i>taqri:r</i>	taqrir (esk. ma'ruza)
تقریظ	<i>taqri:z</i>	taqriz
تقسیم	<i>taqsi:m</i>	taqsim
تقلید	<i>taqli:d</i>	taqlid (qilish)
تقلیداً	<i>taqli:dan</i>	taqlidan (taqlid tarzida)
تقلیدی	<i>taqli:di:</i>	taqlidiy
تقویٰ	<i>taqva:</i>	taqvo
تقویٰ دار	<i>taqva:da:r</i>	taqvodor
تقویم	<i>taqvi:m</i>	taqvim (kalendar)
تکامل	<i>taka:mil</i>	takomil (kamolot)
تکبر	<i>takabbur</i>	takabbur
تکبرانہ	<i>takabbura:na</i>	takabburona
تکبیر	<i>takbi:r</i>	takbir (Allohni ulug'lash)
تکرار	<i>takra:r</i>	takror
تکراراً	<i>takra:ran</i>	takroran
تکفین	<i>takfi:n</i>	takfin (esk. kafanlash)
تکلف	<i>takalluf</i>	takalluf
تکلفات (جمع)	<i>takallufa:t</i>	takallufot
تکلم	<i>takallum</i>	takallum (suhbat)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
تکلیف (دکھ)	<i>takli:f</i>	taklif (da'vat)
تکمه	<i>tukma</i>	tugma
تکيه	<i>takya</i>	takya (bolish)
تلاش (بمعنى كھوج)	<i>tala:sh</i>	talash (olishuv, nizo)
تلاطم	<i>tala:tum</i>	talotum (to'polon)
تلاوت	<i>tila:vat</i>	tilovat
تلبیس	<i>talbi:s</i>	talbis (esk. makr, hiyla)
تلیخ	<i>talx</i>	talx (achchiq)
تلیخیس	<i>talxi:s</i>	talxis (xulosa)
تلف، تلفات	<i>talaf, talaf:at</i>	talafot (zarar, nuqson)
تلفظ	<i>talaffuz</i>	talaffuz
تلقین	<i>talqi:n</i>	talqin (sharh, tushuntirish)
تلمود	<i>talmu:d</i>	Talmud (yahudiylarning muqaddas kitobi)
تلمیح	<i>talmi:h</i>	talmeh (ishora)
تلموسه	<i>talvasa</i>	talvasa (hayajon)
تماشبین	<i>tama:shbi:n</i>	tomoshabin
تماشه	<i>tama:sha</i>	tomosha
تمام	<i>tama:m</i>	tamom (barcha)
تماماً	<i>tama:man</i>	tamoman
تمائل	<i>tama:il</i>	tamoyil (moyillik)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
تمباكو	<i>tamba:ku:</i>	tamaki
تمثال	<i>timsa:l</i>	timsol (belgi; namuna)
تمثيل	<i>tamsi:l</i>	tamsil (misol)
تمدن	<i>tamaddun</i>	tamaddun (madaniyat, sivilizatsiya)
تمساح	<i>timsa:h</i>	timsoh
تمغ، تمغه	<i>tamg'a:</i>	tamg'a (belgi, mukofot)
تمكين	<i>tamki:n</i>	tamkin (sabr-qanoat)
تمل	<i>tamal</i>	tamal (asos, poydevor)
تملق	<i>tamalluq</i>	tamalluq (esk.takalluf)
تمنا	<i>tamanna:</i>	tamanno (xohish)
تميز	<i>tami:z</i>	tamiz (aql, fahm-farosat)
تن، تنا	<i>tan, tana:</i>	tan (gavda, tana)
تن فروشي	<i>tanfaro' shi:</i>	tanfurushlik (fohishalik)
تناسب	<i>tana:sub</i>	tanosib (uyg'un, bir-biriga yaqin)
تنده	<i>tanda</i>	tanda (to'qimachilikda uzunasiga tortiladigan ip)
تناسل	<i>tana:sul</i>	tanosil (nasl)
تناور، تن آور	<i>tana:var</i>	tanovar (chiroyli, xushbichim)
تناول	<i>tana:vul</i>	tanovul (yeyish, ichish)
تمبل، تمبل	<i>taNbal, tambal</i>	tanbal (yalqov, dangasa)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
تنبورچى	<i>tanburchi</i>	tanburchi
تنبيه	<i>tanbeh</i>	tanbeh (koyish)
تند	<i>tund</i>	tund (qo'pol, sovuq, qattiqqo'l)
تندور، تنور	<i>tandu:r, tannu:r</i>	tandir
تنده	<i>tanda</i>	tanda (to'qimachilikda uzunasiga tortiladigan ip)
تنزل	<i>tanazzul</i>	tanazzul (tushkunlik, inqiroz)
تنسيق	<i>tansi:q</i>	tansiq (kam uchraydigan, noyob)
تنفس	<i>tanaffus</i>	tanaffus (uzilish, dam olish)
تنقيد	<i>tanqi:d</i>	tanqid
تنقيدى	<i>tanqi:di:</i>	tanqidiy
تنقيص	<i>tanqi:s</i>	tanqis (kamyob)
تنگ	<i>tang</i>	tang (og'ir, mushkil ahvol)
تنگرى	<i>tangri:</i>	Tangri (Alloh)
تنگلى	<i>tangi:</i>	tanglik (yetishmaslik)
تنوير	<i>tanvi:r</i>	tanvir (esk. yoritish)
تنها	<i>tanha:</i>	tanho (yakka, yolg'iz)
تنهائى	<i>tanha:i:</i>	tanholik
توا، توه	<i>tava:,tava</i>	tova (idish)
تواضع	<i>tava:zo'</i>	tavoze' (xoksorlik, kamtarlik)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
توان	<i>tava:n</i>	tovon (oyoq kaftining orqa qismi)
توانا	<i>tava:na:</i>	tavono (esk. baquvvat)
توانگر	<i>tava:Ngar</i>	tavongar (qudratli)
توہڑا، توروا	<i>to' bRa:,to' rva:</i>	to'rva (esk. xalta)
توبہ	<i>taoba</i>	tavba
توبہ تضرع	<i>taoba-tazarru</i>	tavba-tazarru
توپ	<i>to' p</i>	to'p (zambarak)
توپ خانہ	<i>to' pxa:na</i>	to'pxona (esk. qurol-aslaha saqlanadigan joy)
توپچی	<i>to' pchi:</i>	to'pchi (esk.to'p otuvchi)
توت	<i>tu:t</i>	tut (daraxti)
توت زار	<i>tutza:r</i>	tutzor
توتیا (طوطا)	<i>to'ta:</i>	to'ti
توتیا	<i>tu:tiya:</i>	to'tiyo (esk. missulfat), ko'zga suriladigan dori. Ko'chma: juda aziz narsa)
توجہ	<i>tavajjo'</i>	tavajjuh (diqqat)
توحید	<i>taohi:d</i>	tavhid (Allohning yakkayu yagonaligiga e'tiqod qilish)
تودہ	<i>to'da</i>	to'da (gala, to'plangan narsa, g'aram)
تور	<i>to'r</i>	to'r (parda)
تورات	<i>taora:t</i>	Tavrot (yahudiylarning muqaddas kitobi)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
تو شك (بستر)	<i>to 'shak</i>	to'shak (ko'rpacha, ko'rpa)
توصيت، توصيه	<i>taosi:yat, taosiya</i>	tavsiya (maslahat)
توصيف	<i>taosi:f</i>	tavsif (ta'rif)
توفيق	<i>taofi:q</i>	tavfiq (diyonat, insof)
توقف	<i>tavaqquf</i>	tavaqquf (esk. tanaffus)
توكل	<i>tavakkul, tavakkal</i>	tavakkal (biror narsaga jazm qilish)
تورا	<i>tavalla:</i>	tavallo (yolvorish)
تولد	<i>tavallud</i>	tavallud (tug'ilish)
توهم	<i>tavahhum</i>	tavahhum (esk. vahima)
توئي، طوئي (شادي)	<i>to 'y</i>	to'y
توئي بيگي	<i>to 'ybegi:</i>	to'ybegi (tar. to'yni boshqaruvchi shaxs)
تهه	<i>teh</i>	tag (tub, ost qatlam)
تهه به تهه	<i>teh-bateh</i>	tah-batah (qat-qat)
تهدار	<i>tehda:r</i>	tagdor (nasl-nasabli)
تهديد	<i>tehdi:d</i>	tahdid (xavf, xatar)
تهلكه	<i>tehelka</i>	tahluka (baxtsiz hodisa)
تهمت	<i>to 'hmat</i>	Tuhmat
تيار	<i>tayya:r</i>	Tayyor
تياري	<i>tayya:ri:</i>	tayyorgarlik

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
تير	<i>ti:r</i>	tir (kamon, yoy)
تير كاش، تركاش	<i>ti:rkash, tirkash</i>	tirkash, tarkash (o'qdon)
تيره	<i>ti:ra</i>	tiyra (esk.qora, qorong'i)
تيز	<i>tez</i>	tez (o'tkir, keskir)
تيزاب	<i>teza:b</i>	tezob
تیشه	<i>tesha</i>	tesha
تغ	<i>teg'</i>	tig' (uchli, kesuvchi narsa)
تغ دار	<i>teg'da:r</i>	tig'dor (o'tkir, tig'li)
تيم	<i>tayammum</i>	tayammum (tahoratning bir turi)
توپي	<i>To'pi:</i>	to'ppi, do'ppi

ث (se)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
ثابت (ثابوت)	sa:bit (sa:bu:t)	sobit (mustahkam, barqaror)
ثابت قدم	sa:bitqadam	sobitqadam
ثابت قدمی	sa:bitqadmi:	sobitqadamlik
ثانی	sa:ni	soniy (esk. ikkinchi)
ثانیہ	sa:niya	soniya (daqiqqa,sekund)
ثبات	saba:t	sabot (qat'iyat)
ثبات کار	saba:tka:r	sabotkor (chidamli)
ثبوت	subu:t	subut (qat'iylik, barqarorlik)
ثروت	sarvat	sarvat (boylik)
ثروت دار	sarvatda:r	sarvatdor (badavlat, boy)
ثریا	surayya:	surayyo (yulduzlar turkumi)
ثلث	suls	suls (xattotlikda yozuv turi)
ثمر، ثمرہ	samar, samara	samara (meva, natija)
ثمر آور	samara:var	samarali
ثمرہ دار	samarada:r	samarador (sermahsul)
ثنا	sana:	sano (maqtoov, madh)
ثنائی	sana:i:	sanoiy (maqtoov)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
ثواب	sava:b	savob (ajr, mukofot, xolis ish)
ثوابي	sava:bi:	savobli (ish, amal)
ثور	saor	Savr (o'n ikki burjning biri (<i>Buqa</i>))

☆☆☆

ج (jīm)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
جا	<i>ja:</i>	jo (joy)
جابجا	<i>ja:-baja:</i>	jobajo
جابر	<i>ja:bir</i>	jobir (esk. jabr qiluvchi)
جادو	<i>ja:du:</i>	jodu (sehr, afsun)
جادوگر	<i>ja:du:gar</i>	jodugar
جادوگری	<i>ja:du:gari:</i>	jodugarlik
جاذب	<i>ja:zib</i>	jozib (o'ziga tortuvchi)
جاذبه	<i>ja:ziba</i>	joziba (jalb etuvchi)
جاذبه دار	<i>ja:zibada:r</i>	jozibador
جاری	<i>ja:ri:</i>	joriy (davom etayotgan)
جاریہ	<i>ja:rya</i>	joriya (esk. cho'ri, oqsoch)
جاسوس	<i>ja:su:s</i>	josus (ayg'oqchi)
جاسوسی	<i>ja:su:si:</i>	josuslik (ayg'oqchilik)
جاگیر	<i>ja:gi:r</i>	jogir (esk. katta yer)
جاگیر دار	<i>ja:gi:rda:r</i>	jogirdor (esk. katta yer egasi)
جام	<i>ja:m</i>	jom, qadah
جامع مسجد	<i>ja:ma: masjid</i>	jome' masjidi

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
جامہ	<i>ja:ma</i>	joma (kiyim, libos)
جامہ دان	<i>ja:mada:n</i>	jomadon (esk. sandiqcha)
جان	<i>ja:n</i>	jon
جاناں	<i>ja:na:N</i>	jonon
جانانہ	<i>ja:na:na</i>	jonona
جانب	<i>ja:nib</i>	jonib (tomon)
جان باز	<i>ja:nba:z</i>	jonboz (fidokor)
جان بازی	<i>ja:nba:zi:</i>	jonbozlik
جان بخش	<i>ja:nbaxsh</i>	jonbaxsh (hayotbaxsh)
جان دار	<i>ja:nda:r</i>	jondor (tirik)
فدا جان	<i>ja:nfida:</i>	jonfido
جان و دل	<i>ja:no ' dil</i>	jonu dil (jon-dil)
جانور	<i>ja:nvar</i>	jonivor
جاویدان	<i>ja:vi:da:n</i>	jovidon (abadiy)
جاہل	<i>ja:hil</i>	johil
جاہلی	<i>ja:hili:</i>	johillik
جائز	<i>ja:iz</i>	joiz (o'rinli)
جائے	<i>ja:y</i>	joy, o'rin, makon
جانماز ، جائے نماز	<i>ja:nama:z, ja:e nama:z</i>	joynamoz
جبار	<i>jabba:r</i>	jabbor (Olloh)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
جبر	<i>jabr</i>	jabr
جبر و ستم	<i>jabro ' sitam</i>	jabru sitam
جبراً	<i>jabran</i>	jabran (majburan)
جبه	<i>jabha</i>	jabha (soha)
جبه	<i>jubba</i>	jubba (esk. issiq kiyimning bir turi)
جشہ	<i>jussa</i>	jussa (gavda)
جدا	<i>juda:</i>	judo
جدائی	<i>juda:i:</i>	judolik (ayriliq)
جدوجہد	<i>jeddo ' jehed</i>	jiddu-jahd
جدول	<i>jadval</i>	jadval
جدید	<i>jadi:d</i>	jadid (yangilik tarafdori)
جدیدیت	<i>jadi:di:yat</i>	jadidiyat (jadidchilik)
جذب، جذبہ	<i>jazb, jazba</i>	jazb (jazava)
جرات	<i>jura:t</i>	jur'at (shijoat, jasorat)
جراح	<i>jarra:h</i>	jarroh (xirurg)
جراحت	<i>jara:hat</i>	jarohat
جراحی	<i>jarra:hi:</i>	jarrohlik
جرم	<i>jurm</i>	jurm (gunoh)
جریان	<i>jarya:n</i>	jarayon (rivoj, oqim)
جریدہ	<i>jari:da</i>	jarida (esk. jurnal)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
جریمہ (بمعنی گناہ، خطا)	<i>jari:ma</i>	jarima (jarima, tovon)
جُز	<i>juz</i>	juz
جزا	<i>jaza:</i>	jazo
جزدان	<i>juzda:n</i>	juzdon (esk. xalta)
جزم	<i>jazm</i>	jazm (qat'iy qaror)
جزو	<i>juzv</i>	juzv (bo'lak, hissa)
جزوی	<i>juzvi:</i>	juz'iy
جزیہ	<i>jizya</i>	jizya (esk. soliq)
جسارت	<i>jasa:rat</i>	jasorat
جسد	<i>jasad</i>	jasad
جسم	<i>jism</i>	jism
جسمانی	<i>jisma:ni:</i>	jismoniy
جسور	<i>jasu:r</i>	jasur
جفا	<i>jafa:</i>	jafo (azob)
جفاکار	<i>jafa:ka:r</i>	jafokor (zolim, berahm)
جفاکش	<i>jafa:kash</i>	jafokash
جفاکشی	<i>jafa:kashi:</i>	jafokashlik
جفت	<i>juft</i>	juft
جگر	<i>jigar</i>	jigar
جگر بند	<i>jigarband</i>	jigarband (farzand)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
جگر گوشه	<i>jigargo'sha</i>	jigargo'sha (farzand)
چِلا (چېك)	<i>jila:</i>	jilo, jilva (ko'rk, husn)
چلاد	<i>jalla:d</i>	jallod
چلادى	<i>jalla:di:</i>	jallodlik (zulum)
چلب	<i>jalb</i>	jalb (etish)
چلده	<i>jild</i>	jild
چلو	<i>jilav</i>	jilov (boshqarish)
چلودار	<i>jilavda:r</i>	jilovdor (esk. otlarga qaraydigan odam)
چلو بردار	<i>jilavbarda:r</i>	jilovbardor
چلوه	<i>jilva</i>	jilva
چلوه گر	<i>jilvagar</i>	jilvagar
جمادى الاول	<i>jamadi ul-avval</i>	jumadilavval (Qamariya yil hisobining beshinchi oyi)
جماعت	<i>jama:at</i>	jamoat
جمال	<i>jama:l</i>	jamol (husn)
جماليت	<i>jama:liya:t</i>	jamoliyot (go'zallik)
جمع	<i>jama:</i>	jam (yig'ilgan)
جمع الجمع	<i>jama ul-jama</i>	jamuljam (barcha, hamma)
جمعه	<i>juma:</i>	juma
جمله	<i>jumla</i>	jumla

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
جمہوریت	<i>jumhu:ri:yat</i>	jumhuriyat
جمع	<i>jami:</i>	jami (barcha, hamma)
جمعیت	<i>jami:at</i>	jamiyat
جمیلہ	<i>jami:la</i>	jamila
جن	<i>jin</i>	jin (arvoh)
جناب	<i>jana:b</i>	janob
جنازہ	<i>jana:za</i>	janaza, janoza
جنبش	<i>jumbish</i>	junbush (harakat; kuch)
جنت	<i>jannat</i>	jannat
جنتی	<i>jannati:</i>	jannati (pok inson)
جنجال	<i>janja:l</i>	janjal (mojaro)
جنس	<i>jins</i>	jins
جنسی	<i>jinsi:</i>	jinsiy
جنگ	<i>jang</i>	jang
جنگ آور	<i>janga:var</i>	jangovar
جنگ آوری	<i>janga:vri:</i>	jangari
جنگاہ	<i>janga:h</i>	janggoh (jang maydoni)
جنگل	<i>jangal</i>	jangal (changal)
جنگلی	<i>jangli:</i>	jungli (changalzor)
جنگ نامہ	<i>jangna:ma</i>	jangnoma

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
جنگ و جدل	<i>jango ' jadal</i>	jangu jadal (jang-jadal)
جنوب	<i>janu:b</i>	janub
جنوبی	<i>janu:bi:</i>	janubiy
جنون	<i>junu:n</i>	junun (aqldan ozgan)
جنونی	<i>junu:ni:</i>	jununiy (telbalik)
جِنّی	<i>jinni:</i>	jinni (telba)
جو	<i>ju:</i>	jo', jo'y (ariq)
جواب	<i>java:b</i>	javob
جواباً	<i>java:ban</i>	javoban, javob tariqasida
جواب طلب	<i>java:btalab</i>	javobtalab
جوان	<i>java:n</i>	juvon (yosh ayol)
جوان مرد	<i>java:nmard</i>	juvonmard, jo'mard (oliyhimmat)
جوان مردی	<i>java:nmardi:</i>	javonmardlik, jo'mardlik (dovyuraklik)
جوان مرگ	<i>java:nmarg</i>	juvonmarg (yosh o'lgan)
جوانب	<i>java:nib</i>	javonib (ikkala tomon)
جواهر	<i>java:hir</i>	javohir
جواهرات	<i>java:hira:t</i>	javohirot
جور	<i>jo'r</i>	jo'r (mos, uyg'un)
جوزا	<i>jaoza:</i>	Javzo (o'n ikki burjdan biri)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
جولان	<i>jaola:N</i>	javlon (sayr qilish, aylanish)
جوهر	<i>jaohar</i>	javhar (gavhar)
جهاد	<i>jiha:d</i>	jihad
جهاز	<i>jaha:z</i>	jihaz (uy-ro'zg'or buyumlari)
جهالت	<i>jaha:lat</i>	jaholat (ilmsizlik)
جهان	<i>jaha:n</i>	jahon
جهان شمول	<i>jaha:nshumu:l</i>	jahonshumul
جهان گرد	<i>jaha:ngard</i>	jahongard (esk. sayyoh)
جهان گشته	<i>jaha:ngashta</i>	jahongashta
جهان گشتی	<i>jaha:ngashti:</i>	jahongashtalik (ko'p sayohat qilish)
جهانگیر	<i>jaha:ngi:r</i>	jahongir
جهت	<i>jehet</i>	jihat (tomon)
جهد	<i>jahd</i>	jahd (g'ayrat)
جهل (جهالت، لاعلمی)	<i>jehl</i>	jahl (g'azab; jaholat)
جهنم	<i>jahannam</i>	jahannam (do'zax)
جیب	<i>jeb</i>	jayb (esk. cho'ntak)

(ce, če) چ

اُردو	تلفظ	اُزبیک
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
چادر	<i>cha:dar</i>	chodir (<i>hijob, opinchiq</i>)
چادرہ	<i>cha:dira</i>	chodira (<i>yopinchiq</i>)
چار	<i>cha:r</i>	chor (to'rt)
چارباغ	<i>cha:rba:g'</i>	chorvoq
چارپائی	<i>cha:rpa:i:</i>	chorpoya (<i>esk. so'rining bir turi</i>)
چار (چار) شنبہ	<i>cha:rshanba</i>	chorshanba
چاروا	<i>cha:rva:</i>	chorva (<i>qo'y, mol</i>)
چاروادار	<i>cha:rva:da:r</i>	chorvador
چارہ	<i>cha:ra</i>	chora (<i>yo'l; iloj</i>)
چاریار	<i>cha:rya:r</i>	choryor
چاغ	<i>cha:g'</i>	chog' (<i>xursand, shod</i>)
چاق	<i>cha:q</i>	choq (<i>kuchli, baquvvat</i>)
چاک چاک	<i>cha:k-cha:k</i>	chok-chok, (<i>tilka-pora qilmoq</i>)
چاکر (نوکر چاکر)	<i>cha:kar</i>	chokar (<i>esk. malay, xizmatkor</i>)
چائے	<i>cha:y</i>	choy
چائے خانہ	<i>cha:yxa:na</i>	choyxona
چائے دان، چائے دانی	<i>cha:yda:n, chayda:ni:</i>	choydon (<i>esk. choydish</i>)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
چپ	<i>chap</i>	chap (<i>tomon</i>)
چپاتی	<i>chapa:ti:</i>	chavati (<i>esk. nonning bir turi</i>)
چپت، چپات	<i>chapat, chapa:t</i>	shapati (<i>tarsaki</i>)
چتر، چاتر	<i>chatir, cha:tir</i>	chatir (<i>esk. soyabon</i>)
چراغ	<i>chara:g'</i>	chiroq
چراغان	<i>chara:g'a:N</i>	charog'on (<i>juda yoruq, ravshan</i>)
چراغچی	<i>chira:g'chi:</i>	chiroqchi (<i>esk. chiroqbon</i>)
چرب، چربی	<i>charb, charbi:</i>	charvi (<i>yog'</i>)
چرخ	<i>charx</i>	charx (<i>gardish, falak; chig'ir charxlaydigan asbob</i>)
چرخه، چرخا	<i>charxa, charxa:</i>	charx (<i>ip yigiradigan charx</i>)
چرخچی	<i>charxchi:</i>	charxchi
چرخ فلک	<i>charxfalak</i>	charxpalak (<i>osmon, dunyo; tarixning gardishi</i>)
چرکین، چرک	<i>chirki:n</i>	chirkin (<i>iflos, isqirt</i>)
چرم	<i>charm</i>	charm
چرمی	<i>charmi:</i>	charm (<i>teridan qilingan</i>)
چرواها	<i>charva:ha:</i>	chorvachi (<i>chorvador</i>)
چست	<i>chust</i>	chust (<i>esk. chaqqon, epchil</i>)
چستی	<i>chusti:</i>	chusti (<i>esk. epchillik</i>)

اُردو	تلفظ	اُزبیک
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
چشم (بمعنی آنکھ)	<i>chashm</i>	chashm (esk. ko'z)
چشمہ	<i>chashma</i>	chashma (<i>buloq; manba</i>)
چغتائی	<i>chug'ta:i:</i>	chig'atoy (esk. <i>Turkiy qabilalarddan biri</i>)
چغل	<i>chug'al</i>	chug'al (esk. <i>baquvvat, kuchli</i>)
چقماق، چقماق	<i>chaqma:q, chaqmaq</i>	chaqmoq (<i>chaqmoq tosh; osmondagi yashin</i>)
چک مک	<i>chakmak</i>	chaqmoq
چلا، چلہ	<i>chilla:,chilla</i>	chilla (<i>yilning chillasi; qirq kun</i>)
چلپچی (ہاتھ منہ دھونے کا ظرف)	<i>chilapchi:</i>	chilapchi (qarang چلپچی)
چلم	<i>chilam</i>	chilim (<i>chekish asbobi</i>)
چلم کش	<i>chilamkash</i>	chilimkash (<i>chilim chekuvchi, poyaki</i>)
چلپچی (ظرف)	<i>chilamchi</i>	chilamkash (<i>yuz qo'l yuvadigan idish</i>)
چمبر، چمبر	<i>chambar, chanbar</i>	chambar (esk. <i>doira; halqa</i>)
چمبرک	<i>chambarak</i>	chambarak (<i>tepaga osiladigan savatcha</i>)
چمچا، چمچ	<i>chamcha:, chamach</i>	cho'mich (qoshiq)
چمن	<i>chaman</i>	chaman
چمن زار	<i>chamanza:r</i>	chamanzor
چنار	<i>china:r</i>	chinor (<i>daraxti</i>)

اُردو	تلفظ	اُزبیک
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
چنانچہ	<i>chuna:nche</i>	chunonchi
چنگ (ایک ساز)	<i>chang</i>	chang (\ .torli musiqa asbobi; ۲. panja, changal)
چنگل (بمعنی جنگل)	<i>chungal</i>	changel, o'rmon
چوب	<i>cho'b</i>	cho'p (o't, giyoh; tarasha, payraha;)
چوپان	<i>chaopa:n</i>	cho'pon
چوراہا	<i>chaora:ha:</i>	chorraha
چوگان	<i>chaoga:n</i>	chavgon (esk. otlarga minib o'ynaladigan sport turi)
چہار	<i>chaha:r</i>	chahor, chor (to'rt)
چہرہ	<i>chehra</i>	chehra
چھینٹ (ایک قسم کا کپڑا)	<i>chhi:nT</i>	chit, chint (gazlamaning bir turi)
چچک	<i>chchak</i>	chchak (yuqumli kasallik turi)
چیک	<i>chek</i>	chek (ekish uchun ajratilgan yer)
چیل	<i>chi:l</i>	chil (ov qushi)
چین	<i>chi:n</i>	chin (Xitoy)
چینک	<i>cheynak</i>	choynak
چینی، چین سے منسوب	<i>chi:ni:</i>	chinni (idish)

ح (barī he)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
حاتم	<i>ha:tam</i>	hotam (saxiy, saxovatli)
حاتم طائى	<i>ha:tamta:y</i>	hotamtoy
حاجت	<i>ha:jat</i>	hojat
حاجت برار	<i>ha:jatbara:r</i>	hojatbaror, yordam beruvchi
حاجت مند	<i>ha:jatmand</i>	hojatmand, muhtoj
حاجى	<i>ha:ji:</i>	hoji
حادثة	<i>ha:disa</i>	hodisa
حاذق	<i>ha:ziq</i>	hoziq (esk. bilimdon, mohir)
حاشية	<i>ha:shiya</i>	hoshiya
حاصل	<i>ha:sil</i>	hosil
حاصله	<i>ha:sila</i>	hosila (samara, natija)
حاضر (موجود)	<i>ha:zir</i>	hozir (shay, mavjud)
حاضر جواب	<i>ha:zirjava:b</i>	hozirjavob (gapga usta)
حاضر جوابى	<i>ha:zirjava:bi:</i>	hozirjavoblik
حافظ	<i>ha:fiz</i>	hofiz (yetuk xonanda)
حافظه	<i>ha:fiza</i>	hofiza (xotira)
حاكم	<i>ha:kim</i>	hokim

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
حاكيت	<i>ha:kmi:yat</i>	hokimiyat
حال	<i>ha:l</i>	hol
حال احوال	<i>ha:l ehva:l</i>	hol-ahvol (sog'-salomatlik)
حالانكه	<i>ha:la:nke</i>	(va)holanki, holbuki
حالت	<i>ha:lat</i>	holat
حامله	<i>ha:mila</i>	homila
حامى	<i>ha:mi:</i>	homiy
حبس	<i>habs</i>	hibs (qamoq)
حبشى	<i>habshi:</i>	habash
حتى، حتى كه	<i>hatta:, hatta:ke</i>	hatto, hattoki
حج	<i>haj</i>	haj
حجت (دليل)	<i>hujjat</i>	hujjat
حجره	<i>hujra</i>	hujra
حجم	<i>hajm</i>	hajm (o'lchov)
حد	<i>had</i>	had
حدت	<i>hiddat</i>	hiddat (shiddat, keskinlik)
حدود	<i>hudu:d</i>	hudud (chegaralar)
حديث	<i>hadi:s</i>	hadis
حذر	<i>hazar</i>	hazar (jirkanch, nafrat)
حر	<i>hur</i>	hur (erkin, ozod)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
حرارت	<i>hara:rat</i>	harorat
حرام	<i>hara:m</i>	harom
حرام خور	<i>hara:mxo'r</i>	haromxo'r
حرام زاده	<i>hara:mza:da</i>	haromzoda
حرامى	<i>hara:mi:</i>	haromi
حرب	<i>harb</i>	harb (esk. jang, urush)
حربى	<i>harbi:</i>	harbiy
حرص	<i>hirs</i>	hirs (ochko'zlik)
حرف	<i>harf</i>	harf
حرکت	<i>harkat</i>	harakat
حرم	<i>haram</i>	haram (muqaddas joy)
حرم خانه (تار)	<i>haramxa:na</i>	haramxona (esk.ichkari)
حُرمت	<i>hurmat</i>	hurmat
حُریت	<i>hurri:at</i>	hurriyat (erkinlik)
حریر	<i>hari:r</i>	harir (yupqa ipak gazlama)
حریص	<i>hari:s</i>	haris (hirs qo'ygan)
حریف	<i>hari:f</i>	harif (esk. dushman, raqib)
حزین	<i>hazi:n</i>	hazin (g'amgin, ranjida)
حس	<i>his</i>	his (sezgi)
حساب	<i>hisa:b</i>	hisob

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
حساب دان	<i>hisa:bda:n</i>	hisobdon (esk. hisobchi)
حساب كتاب	<i>hisa:b kita:b</i>	hisob-kitob
حساس	<i>hassa:s</i>	hassos (sezgir, nozik)
حسد	<i>hasad</i>	hasad
حسرت	<i>hasrat</i>	hasrat
حسن	<i>husn</i>	husn
حسانات	<i>hasana:t</i>	hasanot (yaxshiliklar; xush kelibsiz)
حشر	<i>hashar</i>	hashar
حشرات	<i>hashra:t</i>	hasharot
حشم، حشمت	<i>hasham, hashmat</i>	hasham (dabdaba, hashamat)
حصه	<i>hissa</i>	hissa
حصه دار	<i>hissada:r</i>	hissador
حضرت	<i>hazrat</i>	hazrat
حضور (جناب)	<i>huzu:r</i>	huzur (rohat, yayrash)
حق	<i>haq</i>	haq, rost
حقارت	<i>hiqa:rat</i>	haqorat
حقارت آميز	<i>hiqa:rata:mez</i>	haqoratomuz
حقانی	<i>haqqa:ni:</i>	haqqoniy
حقانیت	<i>haqqa:ni:yat</i>	haqqoniyat
حق پرست	<i>haqparast</i>	haqparast (odil)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
حق دار	<i>haqda:r</i>	haqdor
حق راست	<i>haqra:st</i>	haqrost
حقنه	<i>huqna</i>	huqna (klizma)
حقه	<i>huqqa</i>	huqqa (chilim, kalyon)
حقير	<i>haqi:r</i>	haqir (qabih, xo'rlangan)
حقيقت	<i>haqi:qat</i>	haqiqat
حقيقتاً	<i>haqi:qatan</i>	haqiqatan
حقيقي	<i>haqi:qi:</i>	haqiqiy
حكايه	<i>hika:yat</i>	hikoyat, hikoya
حكم	<i>hukm</i>	hukm
حكم	<i>hakam</i>	hakam
حكمت	<i>hikmat</i>	hikmat
حکمران	<i>hukmra:n</i>	hukmron (hokim)
حکمرانی	<i>hukmra:ni:</i>	hukmronlik (rahbarlik qilish)
حکومت	<i>huku:mat</i>	hukumat
حکيم	<i>haki:m</i>	hakim (tabib; dono)
حل	<i>hal</i>	hal
حلال	<i>hala:l</i>	halol (pok, toza)
حلاوت	<i>hala:vat</i>	halovat (huzur; zavq)
حلق، حلقوم	<i>halq, halqu:m</i>	halqum

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
حلقه	<i>halqa</i>	halqa (doira)
حلوا	<i>halva:</i>	holva
حلواپز	<i>halva:paz</i>	holvapaz (holvagar)
حليفه	<i>hali:fa</i>	halifa (esk. hukmdor)
حليم	<i>hali:m</i>	halim
حمال	<i>hamma:l</i>	hammol (yuk tashuvchi)
حمام	<i>hamma:m</i>	hammom
حمایت	<i>hima:yat</i>	himoyat, himoya
حمامل	<i>hama:il</i>	hamoyil (kamar, tasmaning bir turi)
حمد	<i>hamd</i>	maqtoov, hamd (hamdu sano)
حمل	<i>hamal</i>	hamal (o'n ikki burjning biri)
حمله	<i>hamla</i>	hamla
حمیت	<i>hami:yat</i>	hamiyat (or-nomus, oriyat)
حنا، گل حنا	<i>hina:, gule hina:</i>	hino, hina
حواری	<i>hava:ri:</i>	havoriy (esk. izdosh)
حواله	<i>hava:la</i>	havola
حور	<i>hu:r</i>	hur (ozod, nihoyatda go'zal)
حوصله	<i>haosila</i>	hafsala
حوض	<i>haoz</i>	hovuz

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
حويلي (شان دارمکان)	<i>haveli:</i>	hovli
حيا	<i>haya:</i>	hayo
حيات	<i>haya:t</i>	hayot
حيات بخش	<i>haya:tbaxsh</i>	hayotbaxsh
حيران	<i>heyra:n</i>	hayron
حيرت	<i>heyrat</i>	hayrat (taajjub)
حيرت آميز	<i>heyrata:mez</i>	hayratomuz
حيض	<i>heyz</i>	hayz
حيف	<i>heyf</i>	hayf (afsus)
حيله	<i>hi:la</i>	hiyla (makr)
حيله گر	<i>hi:lagar</i>	hiylagar (makkor)
حيوان	<i>heyva:n</i>	hayvon
حيوانات	<i>heyva:na:t</i>	hayvonot (dunyosi)

خ (xe)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
خاتمه	<i>xa:tima</i>	xotima
خاتون	<i>xa:tu:n</i>	xotin
خادم	<i>xa:dim</i>	xodim (xizmatkor)
خادمه	<i>xa:dima</i>	xodima
خاده	<i>xa:da</i>	xoda (to'sin)
خار	<i>xa:r</i>	xor (esk. tikan)
خارج	<i>xa:rij</i>	xorij (chet mamlakat)
خارجی	<i>xa:riji:</i>	xorijiy
خاشاک	<i>xa:sha:k</i>	xashak (pichan)
خاص	<i>xa:s</i>	xos (maxsus)
خاصه	<i>xa:ssa</i>	xossa (esk. xususiyat)
خاصیت	<i>xa:si:at</i>	xosiyat, xususiyat
خاطر	<i>xa:tir</i>	xotir (o'y-fikr; yod)
خاطر جمع	<i>xa:tirjama:</i>	xotirjam (osoyishtalik)
خاقان	<i>xa:qa:n</i>	xoqon (tar. eng yuqori unvonga ega bo'lgan shaxs)
خاک	<i>xa:k</i>	xok (tuproq)
خاک پاک	<i>xa:ke pa:k</i>	xokipok

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
خاك پائي	<i>xa:ke pa:i</i>	xokipoy
خاك انداز	<i>xa:kanda:z</i>	xokandoz
خاك سار	<i>xa:ksa:r</i>	xoksor
خاك ساري	<i>xa:ksa:ri:</i>	xoksorlik (itoatkorlik)
خال	<i>xa:l</i>	xol (yuzdagi xol)
خالص	<i>xa:lis</i>	xolis (beg'araz, samimiy)
خالصانه	<i>xa:lisa:na</i>	xolisona (xolislik bilan)
خالق	<i>xa:liq</i>	Xoliq (yaratuvchi, Olloh)
خاله	<i>xa:la</i>	xola
خالي	<i>xa:li:</i>	xoli (bo'sh; ozod)
خام	<i>xa:m</i>	xom (yaxshi etilmagan)
خاموش	<i>xa:mo'sh</i>	xomush (g'amgin)
خاموشي	<i>xa:mo'shi:</i>	xomushlik (g'amginlik, kayfiyatsizlik)
خامه	<i>xa:ma</i>	xoma (esk. qalam)
خان	<i>xa:n</i>	xon
خاندان	<i>xa:nda:n</i>	xonadon
خان زاده	<i>xa:nza:da</i>	xonzoda
خانقاه، خانه قاه	<i>xa:nqa:h,</i> <i>xa:naqa:h</i>	xonaqoh
خانگي	<i>xa:nagi:</i>	xonaki

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
خانم	<i>xa:num</i>	xonim
خانمان، خان ومان	<i>xa:nma:n,</i> <i>xano 'ma:n</i>	xonumon (oila; boylik)
خانه	<i>xa:na</i>	xona
خان	<i>xa:in</i>	xoin (sotqin)
خبر	<i>xabar</i>	xabar
خبردار	<i>xabarda:r</i>	xabardor
خبرنامه	<i>xabarna:ma</i>	xabarnoma
خبیس	<i>xabi:s</i>	xabis (yomon, yaramas, iflos)
ختم	<i>xatm</i>	xatm (tugash)
ختنه	<i>xatna</i>	xatna
خجالت	<i>xaja:lat</i>	xijolat (nadomat)
خجل	<i>xajal</i>	xijil (uyatda qolgan)
خچر	<i>xachchar</i>	xachir
خدا	<i>xuda:</i>	Xudo
خدا ترس	<i>xuda:tars</i>	xudotars (esk. mo'min, xudojo'y)
خداوند	<i>xuda:vand</i>	xudovand
خدائی	<i>xuda:i:</i>	xudoyi
خدمت	<i>xidmat</i>	xizmat
خدمت گار	<i>xidmatga:r</i>	xizmatkor

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
خدمات گاری	<i>xidmatga:ri:</i>	xizmatkorlik
خر	<i>xar</i>	xar
خراب	<i>xara:b</i>	xarob
خرابات	<i>xara:ba:t</i>	xarobot (vayronalar)
خرابه	<i>xara:ba</i>	xaroba (vayrona)
خراج	<i>xira:j</i>	xiroj (esk. yer solig'i)
خراط	<i>xarra:t</i>	xarrot (esk. yog'och ustasi)
خرافات	<i>xura:fa:t</i>	xurofot
خرام	<i>xira:m</i>	xirom (viqor bilan qadam bosish)
خرامان	<i>xira:ma:n</i>	xiromon (nazokatli yurish)
خربوزه	<i>xarbu:za</i>	tarvuz
خرجی، خرچین	<i>xurji:; xurji:n</i>	xurjun
خرچ	<i>xarch</i>	xarj (xarajat, chiqim)
خرخشا	<i>xarxasha</i>	xarxasha (to'polon, janjal, mashmasha)
خرد	<i>xirad</i>	xirad (esk. zakovat)
خردمند	<i>xiradmand</i>	xiradmand (esk. aqlli, dono)
خردل	<i>xardal</i>	xantal (gorchitsa)
خرس	<i>xirs</i>	xirs (esk. ayiq)
خرسند	<i>xursand</i>	xursand

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
خرسنگ	<i>xarsang</i>	xarsang (katta tosh)
خورشيد، خورشيد	<i>xurshid, xu:rshid</i>	xurshid (quyosh, oftob)
خرطوم	<i>xartu:m</i>	xartum
خرگوش	<i>xargo'sh</i>	xargo'sh (quyon)
خرم، خورم	<i>xurram, xu:rram</i>	xurram (shod, quvnoq)
خرما	<i>xurma:</i>	xurmo
خرمن	<i>xirman</i>	xirmon
خروج	<i>xuru:j</i>	xuruj (xuruj, hamla)
خروس	<i>xaru:s</i>	xo'roz
خرید	<i>xari:d</i>	xarid
خریدار	<i>xari:da:r</i>	xaridor
خریش	<i>xari:sh</i>	xarish(qichima kasalligi)
خریطة	<i>xari:ta</i>	xarita (geografik karta)
خزاں	<i>xiza:N</i>	xazon (kuz)
خزانهچى	<i>xaza:nchi:</i>	xazinachi
خزانه، خزینه	<i>xaza:na, xazi:na</i>	xazina
خس	<i>xas</i>	xas (xashak, cho'p)
خس پوش	<i>xaspo'sh</i>	xaspo'sh(kamchiliklarni yashirish)
خسته	<i>xasta</i>	xasta (kasalmand)
خسته دل	<i>xastadil</i>	xastadil (ezilgan, siqilgan)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
خسېس	<i>xasi:s</i>	xasis (past, qabih, razil)
خشت	<i>xisht</i>	g'isht
خصلت	<i>xaslat</i>	xislat (fazilat)
خضم	<i>xasm</i>	xasm (esk. xo'jayin, er)
خصوص	<i>xusu:s</i>	xusus
خصوصاً	<i>xusu:san</i>	xususan
خصوصى	<i>xusu:si:</i>	xususiy
خصوصيت	<i>xusu:si:at</i>	xususiyat
خصومت	<i>xusu:mat</i>	xusumat
خضر	<i>xizr</i>	xizr
خط	<i>xat</i>	xat
خطا	<i>xata:</i>	xato
خطاب	<i>xita:b</i>	xitob (murojaat qilish)
خطا ط	<i>xatta:t</i>	xattot
خطبه	<i>xutba</i>	xutba
خطر، خطرہ	<i>xatar, xatra</i>	xatar
خطيب	<i>xati:b</i>	xatib (imom)
خفا	<i>xafa:</i>	xafa
خفلى	<i>xafagi:</i>	xafalik
خفيان	<i>xufya:n</i>	xufiyona (zimdan)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
خفيف	<i>xafi:f</i>	xafif (yoqimli)
خفيه	<i>xufi:a</i>	xufiya (yashirin)
خلا	<i>xala:</i>	xalo (bo'shliq)
خلاص	<i>xalas</i>	xalos (najot, qutulish)
خلاصه	<i>xula:sa</i>	xulosa
خلاف	<i>xila:f</i>	xilof (ziddiyat)
خلاق	<i>xalla:q</i>	xalloq (Olloh)
خلاق	<i>xala:iq</i>	xaloyiq
خلعت	<i>xilat</i>	xalat (esk. in'om qilinadigan ustki kiyim; mukofot)
خلق	<i>xalq</i>	xalq
خلائ، خلیتا	<i>xalta:, xali:ta:</i>	xalta, to'rva
خلق	<i>xulq</i>	xulq (fe'l-atvor)
خلل	<i>xalal</i>	xalal (to'sqinlik)
خلوت	<i>xalvat</i>	xilvat (ovloq, chet)
خلوت خانه (~گاہ)	<i>xalvatxa:na</i> (~ga:h)	xilvatxona
خم	<i>xam</i>	xam (egilgan)
خم	<i>xum</i>	xum (katta ko'za)
خمار	<i>xuma:r</i>	xumor
خمسه	<i>xamsa</i>	xamsa (esk. besh dostonidan iborat)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
		mumtoz asar)
خمير	<i>xami:r</i>	xamir
خنجر	<i>xanjar</i>	xanjar
خندااں	<i>xanda:N</i>	xandon (shod, xursand)
خنداق	<i>xandaq</i>	xandaq (qazilgan chuqurlik, okop)
خواب	<i>xa:b, xva:b</i>	xob (tush, uyqu)
خواب گاه	<i>xa:bga:h</i>	xobgoh (esk. uxlash xonasi)
خواجہ	<i>xa:ja, xva:ja</i>	xoja
خوار	<i>xa:r</i>	xor (beqadr, bechora)
خواننده	<i>xa:ninda</i>	xonanda
خواہ	<i>xa:h, xva:h</i>	xoh
خواہ نہ خواہ	<i>xva:h-na xva:h</i>	hoynahoy
خواہش	<i>xa:hish, xva:hish</i>	xohish
خود	<i>xu:d</i>	xud (esk. o'zi)
خود بخود	<i>xu:d-baxu:d</i>	xud-bexud (o'z-o'zidan, beixtiyor)
خود بیں	<i>xu:dbi:n</i>	xudbin
خود بینی	<i>xu:dbi:ni:</i>	xudbinlik
خوراک	<i>xu:ra:k</i>	xo'rak (ovqat)
خورسند	<i>xu:rsand</i>	xursand
خورسندی	<i>xu:rsandi:</i>	xursandchilik

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
خورنده	<i>xo'rinda</i>	xo'randa (ovqatlanuvchi)
خوش	<i>xu:sh</i>	xush
خوش اخلاق	<i>xu:shaxla:q</i>	xushaxloq
خوش آمد	<i>xu:sha:mad</i>	xushomad
خوش آواز	<i>xu:sha:va:z</i>	xushovoz
خوش خبری	<i>xu:shxabri:</i>	xushxabar
خوش فعل	<i>xu:shfe:l</i>	xushfe'l
خوش وقت	<i>xu:shvaqt</i>	xushvaqt
خوش وقتی	<i>xu:shvaqti:</i>	xushvaqtlik
خوشبو	<i>xu:shbu:</i>	xushbo'y (yoqimli hid)
خوشبوئی	<i>xu:shbu:i:</i>	xushbo'ylik
خوشحال	<i>xu:shha:l</i>	xushhol
خوشنود	<i>xu:shnu:d</i>	xushnud (xursandchilik)
خوف	<i>xaof</i>	xavf
خوفناک	<i>xaofna:k</i>	xavfli
خوف و خطر	<i>xaofo' xatar</i>	xavf-xatar
خوک	<i>xu:k</i>	xuk (to'ng'iz)
خون	<i>xu:n</i>	xun (qon)
خونخوار	<i>xu:nxa:r</i>	xunxo'r (qonxo'r)
خونریز	<i>xu:nre:z</i>	xunrez (jallod)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
خونريزي	<i>xu:nrezi:</i>	xunrezlik (qirg'inlik)
خوناب (خوناب)	<i>xu:na:b (xu:nna:b)</i>	xunob (diqqat bo'lgan)
خويش	<i>xesh</i>	xesh (qarindosh, yaqin)
خويش	<i>xeshi:</i>	xeshlik (qarindoshlik)
خيابان	<i>xaya:ba:n</i>	xiyobon
خيال	<i>xaya:l</i>	xayol
خيال پرست	<i>xaya:lparast</i>	xayolparast
خيالاً	<i>xaya:lan</i>	xayolan
خيالات	<i>xaya:la:t</i>	xayolot
خيالى	<i>xaya:li:</i>	xayoliy, afsonaviy
خيانت	<i>xiya:nat</i>	xiyonat
خيانت كار	<i>xiya:natka:r</i>	xiyonatkor
خير	<i>xeyr</i>	xayr (yaxshi; xayrlashish)
خير خواه	<i>xeyrxva:h</i>	xayrixoh
خير خواهى	<i>xeyrxva:hi:</i>	xayrixohlik
خيرە	<i>xi:ra</i>	xira (nursiz; shaffof emas; shilqim)
خيريت	<i>xeyri:yat</i>	xayriyat (yaxshi)

د (dāl)

اُردو	تلفظ	اُزبیک
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
داخل	<i>da:xil</i>	doxil (daxl)
داخلی	<i>da:xili:</i>	doxiliy (ichki)
داد	<i>da:d</i>	dod
دار (سولی)	<i>da:r</i>	dor
دار (تتے رتے پر کرتب دکھانے کا ایک کھیل)	<i>da:r</i>	dor
دار (لاحقہ)	<i>da:r</i>	dor (so'z yasovchi suffiks: sarmoyador)
دار چینی	<i>da:rchi:ni:</i>	dolchin (ziravor turi)
دار باز (بازیگار)	<i>da:rba:z</i>	dorboz
دارو (نشہ)	<i>da:ru:</i>	dori
داستان	<i>da:sta:n</i>	doston
داغ	<i>da:g'</i>	dog'
دالان	<i>da:la:n</i>	dolon (usti yopiq yo'lak)
دام	<i>da:m</i>	dom (tuzoq; hiyla)
داماد	<i>da:ma:d</i>	domod (esk.kuyov)
دامنگیر	<i>da:mangi:r</i>	domangir (xafa)
دانا	<i>da:na:</i>	dono

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
دانائى	<i>da:na:i:</i>	donolik
دانش	<i>da:nish</i>	donish (ilm)
دانش مند	<i>da:nishmand</i>	donishmand
دانش مندى	<i>da:nishmandi:</i>	donishmandlik (donolik)
دانه	<i>da:na</i>	dona (nafar)
دايره	<i>da:ira</i>	doira (to'garak,hildirma)
دائم	<i>da:im</i>	doim
دايمى	<i>da:imi:</i>	doimiy
دايه	<i>da:ya</i>	doya (enaga)
دېدېه	<i>dabdaba</i>	dabdaba (shov-shuv)
دجال	<i>dajja:l</i>	dajjol (esk.firibgar, iblis)
دختر	<i>duxtar</i>	duxtar (esk. qiz)
دخلى (رسائى)	<i>daxl</i>	daxl (aloqa)
دُر	<i>dur</i>	dur
دُره	<i>dura</i>	darra
دراز	<i>dara:z</i>	daroz (uzun, novcha)
درآمد	<i>dara:mad</i>	daromad
دربار	<i>darba:r</i>	darbor (esk. saroy)
دربان	<i>darba:n</i>	darbon (darvoza posboni)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
در پردہ	<i>darparda</i>	darparda (pinhona)
درجہ	<i>darja</i>	daraja
در حقیقت	<i>darhaqi:qat</i>	darhaqiqat (aslida)
درخت	<i>daraxt</i>	daraxt
درد	<i>dard</i>	dard
دردانہ	<i>durda:na</i>	durdona
درد سر	<i>darde sar</i>	dardisar (dahmaza)
درد مند	<i>dardmand</i>	dardmand (kasalmand)
درز (شگاف)	<i>darz</i>	darz
درس	<i>dars</i>	dars
درست	<i>durust</i>	durust
درکار	<i>darka:r</i>	darkor
درگاہ	<i>darga:h</i>	dargoh
درمان	<i>darma:n</i>	darmon (kuch)
درمیان	<i>darmiya:n</i>	darmiyon (o'rtasida)
درندہ	<i>darinda</i>	darranda (yovuz yirtqich)
دروازہ	<i>darva:za</i>	darvoza
درویش	<i>darvesh</i>	darvesh, darvish
درویش صفت	<i>darveshsifat</i>	darveshsifat (darveshnamo)
درویشانہ	<i>darvesha:na</i>	darveshona

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
دره	<i>dara</i>	dara (jarlik)
دره	<i>durra</i>	durra (ro'molcha)
دریا	<i>darya:</i>	daryo
درپچھ	<i>dari:cha</i>	darcha, daricha
دریغ	<i>dareg'</i>	darig' (attang, afsus)
دریغا	<i>dareg'a:</i>	darig'o
دست (ہاتھ)	<i>dast</i>	dast
دستخط	<i>dastxat</i>	dastxat
دستخوان	<i>dastarxva:n</i>	dasturxon
دستک، دستہ	<i>dastak, dasta</i>	dastak (sop)
دستکار	<i>dastka:r</i>	dastkor
دستمال	<i>dastma:l</i>	dastmol (ro'molcha)
دستور	<i>dastu:r</i>	dastur
دستور العمل	<i>dastu:rulamal</i>	dasturilamal
دستہ	<i>dasta</i>	dasta (tutqich)
دشت	<i>dasht</i>	dasht
دشمن	<i>dushman</i>	dushman
دشنام	<i>dushna:m</i>	dashnom
دشوار	<i>dushva:r</i>	dushvor (qiyin, og'ir)
دعا	<i>dua:</i>	duo

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
دعاگو	<i>dua:go'</i>	duogo'y
دعوت	<i>da:vat</i>	da'vat (chaqirish, undash)
دعوى	<i>da:va:</i>	da'vo
دغدغه (خوف؛ ڈر)	<i>dag'dg'a</i>	dag'dag'a (do'q-po'pisa)
دفتر (محلہ)	<i>daftar</i>	daftar (کاپی)
دف	<i>daf</i>	daf (childirma)
دفع	<i>dafa:</i>	daf (yo'qotish, bartaraf qilish)
دفعتاً	<i>dafatan</i>	daf'atan (to'satdan)
دفعہ	<i>dafa</i>	daf'a (marta, bora)
دقت	<i>diqqat</i>	diqqat (e'tibor)
دقیانوس	<i>daqya:nu:s</i>	daqqiyunus (juda eski, qadimiy)
دقیقہ	<i>daqi:qa</i>	daqiqqa
دل	<i>dil</i>	dil
دل آرام	<i>dila:ra:m</i>	dilorom
دل آزار	<i>dila:za:r</i>	dilozor
دل ربا	<i>dilruba:</i>	dilrabo
دل نگار	<i>dilfiga:r</i>	dilfigor (dilafgor)
دل کش	<i>dilkash</i>	dilkash
دلال	<i>dalla:l</i>	dallol

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
دلالت	<i>dala:lat</i>	dalolat (isbot)
دلبر	<i>dilbar</i>	dilbar
دلخراش	<i>dilxara:sh</i>	dilxiroj (yurakni ezuvchi)
دلدار	<i>dilda:r</i>	dildor (yoqimli)
دلسوز	<i>dilso'z</i>	dilso'z
دلشاد	<i>dilsha:d</i>	dilshod (xursand)
دلکشا	<i>dilkusha:</i>	dilkusho (orombaxsh)
دلگیر	<i>dilgi:r</i>	dilgir (ko'ngli g'ash)
دلمه	<i>dulma</i>	do'lma
دلایل	<i>dali:l</i>	dalil
دَم	<i>dam</i>	dam
دُم	<i>dum</i>	dum
دامدم	<i>dama:dam</i>	damodam (dambadam)
دماغ دار	<i>dima:g'da:r</i>	dimog'dor (kibrli)
دماغ	<i>dima:g'</i>	dimog' (takabburlik)
دندان	<i>danda:n</i>	dandon (fil tishi)
دنیا	<i>dunya:</i>	dunyo
دنیاوی	<i>dunya:vi:</i>	dunyoviy
دوا	<i>dava:</i>	davo
دوات	<i>dava:t</i>	davot (esk.siyohdon)
دوام (پیشگی)	<i>dava:m</i>	davom
دوتار	<i>duta:r</i>	dutor
دوچار	<i>do'cha:r</i>	duchor

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
دود	<i>du:d</i>	dud (tutun)
دور	<i>daor</i>	davr
دوران	<i>daora:n</i>	davron
دوربین	<i>du:rbi:n</i>	durbin
دوره	<i>daora</i>	davra
دوزخ	<i>do'zax</i>	do'zax
دوزخی	<i>do'zaxi:</i>	do'zaxi
دوست	<i>do'st</i>	do'st
دوستانه	<i>do'sta:na</i>	do'stona
دوستی	<i>do'sti:</i>	do'stlik
دوشنبه	<i>do'shanba</i>	dushanba
دوکان، دکان	<i>du:ka:n, duka:n</i>	do'kon
دولت	<i>daolat</i>	davlat (davlat, boylik)
دولت مند	<i>daolatmand</i>	davlatmand (boy)
دبان	<i>daha:n</i>	dahan (og'iz)
دهر	<i>dahr</i>	dahr (olam, jahon)
دهری	<i>dahri:</i>	dahriy
دهشت	<i>dehshat</i>	dahshat
دهقان	<i>dehqan:n</i>	dehqon
دہلیز	<i>dehli:z</i>	dahliz
دیار	<i>daya:r (diya:r)</i>	diyor (yurt)
دیانت	<i>daya:nat</i>	diyonat

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
ديانت دار	<i>daya:natda:r</i>	diyondor (diyondatli, insofli)
ديد	<i>di:d</i>	did (aql, farosat)
ديدار	<i>di:da:r</i>	diydor (uchrashish, ko'rishish)
ديده	<i>di:da</i>	diyda (ko'z)
ديکچ، ديکچ	<i>dekcha, degcha</i>	dekcha (qozoncha)
ديگر	<i>di:gar</i>	digar (boshqa, o'zga)
دين	<i>di:n</i>	din
دين دار	<i>di:nda:r</i>	dindor
ديني	<i>di:ni:</i>	diniy
ديوار	<i>di:va:r</i>	devor
ديوان	<i>di:va:n</i>	devon (she'rlar to'plami)
ديوانه	<i>di:va:na</i>	devona
ديوانه وار	<i>di:va:nava:r</i>	devonavor (telbalarcha)

☆☆☆

ڈ (dāl)

☆☆☆

ذ (zāl)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
ذات	za:t	zot
ذبح	zibah	zabh
ذخیره	zaxi:ra	zaxira (xazina)
ذره	zarra	zarra (bo'lakcha)
ذریات ، ذریت	zurri:yat, zurriya:t	zurriyot (avlod, nasl)
ذکا	zaka:	zakovat
ذکات	zaka:t	zakot (xayr- sadaqa)
ذکوات	zaka:vat	zakovat (donolik)
ذکر	zikr	zikr
ذکی	zaki:	zakiy (dono, aqlli)
ذلیل	zali:l	zalil (tahqirlangan)
ذم	zam(m)	zam (qo'shimcha)
ذمه	zimma	zimma (mas'uliyat)
ذوق	zaoq	zavq
ذوق شوق	zaoq-shaoq	zavq-shavq (shodlik)
ذهن	zehn	zehn
ذهین	zahi:n	zehnli (idroqli)

ر (re)

اُردو	تلفظ	اُزبیک
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
رُوش	<i>ravish</i>	ravish (yo'sin, tarz, usul, yo'l)
رابطہ	<i>ra:bta</i>	robita
راحب	<i>ra:hib</i>	rohib
راحت	<i>ra:hat</i>	rohat
راحتِ جان	<i>ra:hate ja:n</i>	rohatijon
راز	<i>ra:z</i>	roz
راست	<i>ra:st</i>	rost
راست گو	<i>ra:stgo'</i>	rostgo'y
راستہ (راہ، طریق)	<i>ra:sta</i>	rasta (دوکانوں کی قطاریں اور ان کے درمیان راستہ)
راضی	<i>ra:zi:</i>	rozi
راہ	<i>ra:h</i>	roh
راوی	<i>ra:vi:</i>	roviy
رائے	<i>ra:y</i>	ra'y
رباب	<i>raba:b</i>	rubob
رتبہ	<i>rutba</i>	rutba
رجب	<i>rajab</i>	rajab
رجوع (مڑنا، مخاطب ہونا)	<i>ruju:</i>	ruju' (کسی چیز کی طرف حد سے زیادہ) (خواہش، شوقین ہونا)

اُردو	تلفظ	اُزبیک
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
رحلت	<i>rihlat</i>	rihlat
رحم	<i>rehm</i>	rahm
رحم دل	<i>rehmdil</i>	rahmdil
رحمت (کرم، مہربانی؛ شاہباش)	<i>rehmat</i>	rahmat (کرم؛ شکر یہ)
رحیم	<i>rahi:m</i>	rahim
رخسار	<i>ruxsa:r</i>	ruxsor
رخصت	<i>ruxsat</i>	ruxsat
رخنہ	<i>raxna</i>	raxna
رد	<i>rad(d)</i>	rad
ردا	<i>rida:</i>	rido
ردیف	<i>radi:f</i>	radif
رزالت	<i>riza:lat</i>	rizolat
رزق	<i>rizq</i>	rizq
رزیل	<i>razi:l</i>	razil
رزم	<i>razm</i>	razm
رسالہ	<i>risa:la</i>	risola (کتاب، چھوٹی کتاب)
رسم (رواج، عادت)	<i>rasm</i>	rasm (عادت، رواج)
رسماً	<i>rasman</i>	rasman
رسمی	<i>rasmi:</i>	rasmiy (سرکاری، تصدیق شدہ)

اُردو	تلفظ	اُزبیک
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
رسوا	<i>rusva:</i>	rasvo
رسول	<i>rasu:l</i>	rasul
رسیدہ	<i>rasi:da</i>	rasida
رشتہ	<i>rishta</i>	rishta
رشک	<i>rashk</i>	rashk
رشوت	<i>rishvat</i>	rishva (rishvat)
رضا	<i>riza:</i>	rizo
رطوبت	<i>rutu:bat</i>	rutubat
رعنا	<i>ra:na:</i>	ra'no
رعیت	<i>ra:iyat</i>	raiyat (ملک کے باشندے)
رغبت	<i>rag'bat</i>	rag'bat
رفقار	<i>rafta:r</i>	raftor
رفیق	<i>rafi:q</i>	rafiq
رقاص	<i>raqqa:s</i>	raqqos
رقاصہ	<i>raqqa:sa</i>	raqqosa
رقّت	<i>riqqat</i>	riqqat
رقابت	<i>raqa:bat</i>	raqobat
رقص	<i>raqs</i>	raqs
رقعہ	<i>ruqa</i>	ruq'a
رقم	<i>raqam</i>	raqam (عدد)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
رتیب	<i>raqi:b</i>	raqib
ركاب	<i>rika:b</i>	rikob
ركابى	<i>rika:bi:</i>	rikobiy
ركعت	<i>raka:t</i>	rakaat, rakat
ركن	<i>rukni</i>	rukni
ركوع	<i>ruku:</i>	ruku
رمز	<i>ramz</i>	ramz
رمضان	<i>ramza:n</i>	ramazon
رمل	<i>ramal</i>	ramal
رنج	<i>ranj</i>	ranj
رنجش	<i>ranjish</i>	ranjish
رنجیده	<i>ranji:da</i>	ranjida
رند	<i>rind</i>	rind
رنده	<i>randa</i>	randa
رنگ	<i>rang</i>	rang
رنگ دار	<i>rangda:r</i>	rangdor
رنگ برنگ، رنگارنگ	<i>ranga:rang, rang biranga:</i>	rangorang, rang-barang
رنگین	<i>rangi:n</i>	rangin
رهنما	<i>rehtuma:</i>	rahnamo
رهنمائى	<i>rehtuma:i:</i>	rahnamolik

اُردو	تلفظ	اُزبیک
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
رو	<i>ru:</i>	ro'y
رورو	<i>ru:baru:</i>	ro'baro' [ro'para]
روا	<i>rava:</i>	ravo
رواق	<i>ruva:q</i>	ravoq
رواں	<i>rava:n̄</i>	ravon
روانہ	<i>rava:na</i>	ravona
روایت	<i>riva:yat</i>	rivoyat
روح	<i>ru:h</i>	ruh
روح افزا	<i>ru:hafza:</i>	ruhafzo
روحانی (نفس باطن سے متعلق)	<i>ru:ha:ni:</i>	ruhoniyy (دین مذہب کے لیے کام کرنے والا آدمی)
روحانیت	<i>ru:hani:yat</i>	ruhoniyyat
روز	<i>ro'z</i>	ro'z
روزنامہ	<i>ro'zna:ma</i>	ro'znoma
روزگار	<i>ro'zga:r</i>	ro'zgor
روزہ	<i>ro'za</i>	ro'za
روشن	<i>raoshan</i>	ravshan
روضہ	<i>raoza</i>	ravza
روکش	<i>ru:kash</i>	ro'kach
رومال	<i>ru:ma:l</i>	ro'mol

اُردو	تلفظ	اُزبیک
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
رونق	<i>raonaq</i>	ravnaq
رہبر	<i>rehbar</i>	rahbar
ریا	<i>riya:</i>	riyo
ریاضت	<i>riya:zat</i>	riyozat
ریاضی	<i>riya:zi:</i>	riyoziyot
ریاکار	<i>riya:ka:r</i>	riyokor
ریاکاری	<i>riya:ka:ri:</i>	riyokorlik
ریحان	<i>reyha:n</i>	rayhon
ریزہ	<i>reza</i>	reza
رئیس (سر دار؛ دولت مند)	<i>rai:s</i>	rais (کسی تنظیم کا سربراہ، صدارت کرنے والا)
رواج (رسم، عام دستور)	<i>riva:j</i>	rivoj (ترقی، کامیابی، نشوونما)

☆☆☆

(re) ر

☆☆☆

ز (ze)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
زُهره	<i>zuhra</i>	zuhra
زادگان	<i>za:dga:n</i>	zodagon
زار	<i>za:r</i>	zor
زانی	<i>za:ni:</i>	zoni(y)
زاهد	<i>za:hid</i>	zohid
زائل	<i>za:il</i>	zoyil
زبان	<i>zaba:n (zuba:n)</i>	zabon
زبر	<i>zabar</i>	zabar
زبرجد	<i>zabarjad</i>	zabarjad
زبردست	<i>zabardast</i>	zabardast
زبور	<i>zabu:r</i>	zabur
زبون	<i>zabu:n</i>	zabun
زچ	<i>zich</i>	zich
زحمت	<i>zehmat</i>	zahmat
زحمت کش	<i>zehmatkash</i>	zahmatkash
زخم	<i>zaxm</i>	zaxm
زده	<i>zada</i>	zada
زر	<i>zar</i>	zar

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
زرچوبه	<i>zarcho'ba</i>	zarchuva
زراعت	<i>zara:at</i>	ziroat
زرافشان	<i>zarafsha:n</i>	zarfashon
زرباف	<i>zarba:f</i>	zarbof
زربافت	<i>zarbaft</i>	zarboft
زرخرید	<i>zarxari:d</i>	zarxarid
زرداب	<i>zarda:b</i>	zardob
زردار	<i>zarda:r</i>	zardor
زردالو	<i>zardalu:</i>	zardoli
زردشت	<i>zardusht</i>	zardusht
زرده (زرد رنگ کا گھوڑا؛ صفرا)	<i>zarda</i>	zarda (غصہ صفرا؛)
زردوز	<i>zardo'z</i>	zardo'z
زردوزی	<i>zardo'zi:</i>	zardo'zlik
زرگر [زرکار]	<i>zargar [zarka:r]</i>	zargar
زرگری	<i>zargari:</i>	zargarlik
زرنگار	<i>zarniga:r</i>	zarnigor
زره	<i>zirih</i>	zirh
زره	<i>zira</i>	zira
زریں	<i>zarri:n</i>	zarrin

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
زعفران	za:fra:n	za'faron
زقوم	zaq(q)u:m	zaqqum
زکوٰۃ [زکات]	zaka:t	zakot
زلال	zula:l	zilol
زلزلہ	zalzala	zilzila
زلف	zulf	zulf
زلفین	zulfi:n	zulfin
زمانہ	zama:na	zamona
زمانہ ساز	zama:nasa:z	zamonasoz
زمبور [زنبور]	zambu:r	zambur
زمبورک	zambu:rak	zambarak
زمبورکچی	zambu:rakchi:	zambarakchi
زمستان	zamista:n	zimiston
زمین	zami:n	zamin
زمین دار	zami:nda:r	zamindor
زنا	zina:	zino
زناکار	zina:ka:r	zinokor
زنار	zunna:r	zunnor
زناکاری	zina:ka:ri:	zinokorlik
زنبیل (تھیلی، جھولا)	zanbi:l [zambi:l]	zambil (سامان ڈھونے کا ایک آلہ؛ (بھاری بھر کم)
زنجبیل	zanjabi:l	zanjabil (ایک خوشبودار پودا)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
زنجير	zanji:r	zanjir
زندان	zinda:n	zindon
زندان بان	zinda:nba:n	zindonbon
زندان خانہ	zinda:nxa:na	zindonxona
زنگ	zang	zang
زنگاری (سبز؛ ہرا)	zanga:ri:	zangori (نیلارنگ)
زنہار [زینہار]	zinha:r [zi:nha:r]	zinhor
زہر	zehr	zaharxanda
زہر خندہ	zehrxa:nda	zaharxanda
زہرا	zehra:	zahro
زہرہ	zehra	zahra
زوال	zava:l	zavol
زوج	zaoj	zavj
زوجہ	zaoja	zavja
زود	zu:d	zud
زور آور	zo'ra:var	zo'ravon
زور (طاقت؛ اختیار)	zo'r	zo'r (بڑا؛ طاقتور؛ طاقت؛ انوکھا؛)
زیادہ	ziya:da	ziyoda
زیارت	ziya:rat	ziyorat
زیارت گاہ	ziya:ratga:h	ziyoratgoh

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
زیاں	ziya:N	ziyon
زیب	ze:b	zeb
زیب وزینت	ze:b-o' zi:nat	zeb-ziynat (zebi ziynat)
زیبا	zeba:	zebo
زیتون	zeytu:n	zaytun
زیر	ze:r	zer
زیروزبر	ze:r-o' zabar	zeru-zabar
زیرا	ze:ra:	zero
زیرا [زیرہ]	zi:ra: [zi:ra]	zira
زیرک	zi:rak	ziyrak
زیرکی	zi:raki:	ziyraklik
زینت	zi:nat	ziynat
زینہ	zi:na	zina

☆☆☆

(zhe, že) ж

☆☆☆

س (sīn)

اُردو	تلفظ	اُزبیک
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
سابق	<i>sa:biq</i>	sobiq (oldingi, o'tgan)
ساجق (شادی کی ایک رسم)*	<i>sa:chaq</i>	sochiq (تولیه)
ساحر	<i>sa:hir</i>	sohir (sehrgar)
ساحل	<i>sa:hil</i>	sohil (qirg'oq)
ساختگی	<i>sa:xtagi:</i>	soxtalik
ساختہ	<i>sa:xta</i>	soxta (sun'iy)
سادہ	<i>sa:da</i>	sodda
ساز	<i>sa:z</i>	soz
سازندہ	<i>sa:zinda</i>	sozanda
ساعت	<i>sa:at</i>	soat (vaqt; payt)
ساعت ساز	<i>sa:atsa:z</i>	soatsoz
ساغر	<i>sa:g'ar</i>	sog'ar (esk. may ichiladigan idish)
ساقط	<i>sa:qit</i>	soqit
ساقی	<i>sa:qi:</i>	soqiy
ساقی نامہ	<i>sa:qi:na:ma</i>	soqiynoma
ساکن	<i>sa:kin</i>	sokin (tinch; harakatsiz)
سالنامہ	<i>sa:lina:ma</i>	solnoma (taqvim)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
سائس	sa:is	sais (esk. otboqar)
سايه	sa:ya	soya
سايه بان	sa:yaba:n	soyabon
سايه دار	sa:yada:r	soyali
سبب	sabab	sabab
سبد (بمعنى ٹوکری)	sabad	savat
سبزہ	sabza	sabza (yashil)
سبزی (ترکاری)	sabzi:	sabzi (بمعنى گاجر)
سبزہ زار	sabzaza:r	sabzazor
سبزی جات	sabzi:ja:t	sabzavotlar
سبق	sabaq	saboq
سپاہ، سپاہی	sipa:h, sipa:hi:	sipoh, sipohiy (askar)
ستم	sitam	sitam (jabr, jafo)
ستم دیدہ	sitamdi:da	sitamdiyda (esk. alamdiyda)
ستم گر	sitamgar	sitamgar (sitamkor)
ستون	sutu:n	ustun
سجدہ	sajda	sajda
سجدہ گاہ	sajdaga:h	sajdagoh
سجود (جمع)	suju:d	sujud (sajda, ibodat)
سحر	seher	sahar

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
سحر	<i>sehr</i>	sehr (jodu, afsun)
سحرگر	<i>sehrgar</i>	sehrgar
سحري	<i>sehri:</i>	saharlik
سھو	<i>sehv</i>	sahv (xato)
سھاوت	<i>saxa:vat</i>	saxovat
سختن	<i>suxan</i>	suxan (gap, so'z)
سختن دان	<i>suxanda:n</i>	suxandon
سختي	<i>saxi:</i>	saxiy
سد	<i>sad</i>	sadd (g'ov, to'siq)
سر	<i>sar</i>	sar (kalla, bosh)
سر آمد	<i>sara:mad</i>	saromad (nomdor, mashhur)
سر اب	<i>sara:b</i>	sarob
سر اسر	<i>sara:sar</i>	sarosar (to'la-to'kis, butkul)
سر اسيمه	<i>sara:si:ma</i>	sarosima
سر افراز	<i>sarafra:z</i>	sarafroz (hurmatli)
سر بست	<i>sarbast</i>	sarbast (erkin)
سر بلند	<i>sarbuland</i>	sarbaland (nomdor)
سر انجام	<i>saranja:m</i>	saranjom (orasta)
سر باز	<i>sarba:z</i>	sarboz (esk. jangchi, askar)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
سربان	<i>sarba:n</i>	sarbon (karvonboshi, yo'lboshchi)
سربسر	<i>sarbasar</i>	sarbasar (ketma-ket;hamma)
سرتاپا	<i>sar ta: pa:</i>	sartopo (boshdan-oyoq)
سرتراش (بمعنی نالی)	<i>sartara:sh</i>	sartarosh
سرچشمه	<i>sarchashma</i>	sarchashma (buloq, manba)
سرحد	<i>sarhad</i>	sarhad (chegara)
سرخ	<i>surx</i>	surx (qizil)
سرخط	<i>sarxat</i>	sarxat (husnixat)
سرخوش	<i>sarxu:sh</i>	sarxush (shirakayf)
سرخیل (بمعنی سردار)	<i>sarxi:l</i>	sarxil (eng yaxshi, sara)
سردآب، سردآبه	<i>sarda:b, sarda:ba</i>	sardoba (اوپر سے ہند مصنوعی) (تالاب)
سرطان	<i>sarta:n</i>	saraton (rak kasalligi)
سرعت	<i>surat</i>	sur'at
سرف	<i>sarf</i>	sarf (xarajat)
سرفراز	<i>sarfara:z</i>	sarafroz
سرکار (بمعنی حکومت)	<i>sarkor</i>	sarkor (ishboshi, rahbar)
سرکردہ	<i>sarkarda</i>	sarkarda (boshliq)
سرکش	<i>sarkash</i>	sarkash (o'jar, itoatsiz)
سرکہ	<i>sirka</i>	sirka

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
سرگذشت، سرگزشت	<i>sarguzasht</i>	sarguzasht (kechinmalar)
سرگردانی	<i>sargarda:ni:</i>	sargardonlik
سرگردان	<i>sargarda:n</i>	sargardon (ovora, parishon)
سرمایه	<i>sarma:ya</i>	sarmoya (boylik)
سرمایه دار	<i>sarma:yada:r</i>	sarmoyador
سرمه	<i>surma</i>	surma
سرمه دانی	<i>surmada:ni:</i>	surmadon
سرنه	<i>surna:</i>	surmay
سرنگون	<i>sarnigu:n</i>	sarnigu:n (esk. boshi egilgan)
سرو	<i>sarv</i>	sarv
سرپا	<i>saro '-pa:</i>	sarpo (bosh-oyoq kiyim)
سرویت	<i>sarvat</i>	sarvat (boylik)
سروقامت، سروقد	<i>sarvqa:mat, sarvqad</i>	xushqomat, sarvqad
سرور	<i>sarvar</i>	sarvar (rahbar)
سُرور	<i>suru:r</i>	surur
سورق	<i>sarvaraq</i>	sarvaraq
سروناز	<i>sarvina:z</i>	sarvinoz
سره	<i>sara</i>	sara (toza, sof)
سزا	<i>saza:</i>	sazo (tanbeh, ta'zir)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
سزاوار	<i>saza:va:r</i>	sazovor (munosib, loyiq)
سست	<i>sust</i>	sust
سطح	<i>sateh</i>	sath (yuza; ustki qism)
سطر	<i>satr</i>	satr (qator)
سعادت	<i>saa:dat</i>	saodat
سعادت مند	<i>saa:datmand</i>	saodatmand (baxtli)
سعی	<i>sai:</i>	sa'y (harakat)
سفارت	<i>safa:rat</i>	saforat (esk. elchilik, diplomatiya)
سفارت خانه	<i>safa:ratxa:na</i>	saforatxona (elchixona)
سفارش	<i>sifa:rish</i>	siporish (esk. tavsiya; mulozamat)
سفال	<i>safa:l</i>	sopol
سفالت	<i>safa:lat</i>	safolat (esk. razolat; nochor ahvol)
سفر نامه	<i>safarna:ma</i>	safarnoma
سفره	<i>sufra</i>	supra
سفسط	<i>safsata</i>	safsata
سفیر	<i>safi:r</i>	safir (esk. elchi)
سفیل	<i>safi:l</i>	safil (yaramas, razil)
سقر	<i>saqar</i>	saqar (do'zax)
سکتہ	<i>sakta</i>	sakta (esk. ranjishlik)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
سكوت	<i>suku:t</i>	sukut
سكون	<i>suku:n</i>	sukun (unli tovush yo'qligining belgisi)
سكونت	<i>suku:nat</i>	sukunat (jimjitlik)
سل	<i>sil</i>	sil (kasallik)
سلاح	<i>sila:h</i>	siloh (esk. aslaha)
سلاخ	<i>salla:x</i>	sallox (esk. qassob)
سلام	<i>sala:m</i>	salom
سلامت	<i>sala:mat</i>	salomat
سلامتی	<i>sala:mati:</i>	salomatlik
سلسله	<i>silsila</i>	silsila (jarayon)
سلطان	<i>sulta:n</i>	sulton
سلطانی	<i>sulta:ni:</i>	sultonlik (podshohlik)
سلطنت	<i>saltanat</i>	saltanat
سلف	<i>salaf</i>	salaf (ajdodlar)
سلوک	<i>sulu:k</i>	suluk (xulq)
سما	<i>sama:</i>	samo (osmon)
سماوار	<i>sama:va:r</i>	samovar
سماوی	<i>sama:vi:</i>	samoviy
سمن	<i>suman</i>	suman (yosuman, xushbo'y gul)
سموسه	<i>samo'sa</i>	somsa

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
سن، سنه	<i>san, sana</i>	yil
سنبُل	<i>sumbul</i>	sumbul
سنبله	<i>sumbula</i>	sumbula (a. gulning nomi; b. oyning nomi)
سنت	<i>sunnat</i>	sunnat
سند	<i>sanad</i>	sanad (hujjat)
سنگ	<i>sang</i>	sang (tosh)
سنگباران	<i>sangba:ra:n</i>	sangbo'ron (toshbo'ron)
سنگ تراش	<i>sangtara:sh</i>	sangtarosh (haykaltarosh)
سنگ دل	<i>sangdil</i>	sangdil (toshbag'ir)
سنگسار	<i>sangsa:r</i>	sangsor (toshbo'ron)
سنگین	<i>sangi:n</i>	sangin (toshli joy)
سنه	<i>sana</i>	sana (yil)
سو	<i>su:</i>	su (esk. taraf, tomon, yo'nalish)
سویا	<i>su:ya:</i>	soya
سواری	<i>sava:ri:</i>	suvoriy (otliq)
سوال	<i>sava:l</i>	savol
سوال جواب	<i>sava:l-java:b</i>	savol-javob
سوخته	<i>so'xta</i>	so'xta (a. yonib bo'lgan; b. pilikning kuygan qismi)
سود	<i>su:d</i>	sud (foйда; foiz)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
سودا	<i>saoda:</i>	savdo
سوداگر	<i>saoda:gar</i>	savdogar
سوداگرى	<i>saoda:gari:</i>	savdogarlik (tijorat)
سودائى	<i>saoda:i:</i>	savdoyi (telbalik)
سودخور	<i>su:dxo'r</i>	sudxo'r
سودخورى	<i>su:dxo'ri:</i>	sudxo'ri
سودمند	<i>su:dmand</i>	sudmand (foydali)
سورت، سوره	<i>su:rat, su:ra</i>	sura (Qur'oni Karimning boblari)
سوزاك	<i>so'za:k</i>	so'zak (jinsiy kasallik)
سوزان	<i>so'zan</i>	so'zan (igna)
سوزنى	<i>so'zani:</i>	so'zana
سوغات	<i>saog'at</i>	sovg'alar
سوغه	<i>saog'a</i>	sovg'a (tuhfa)
سه گاه	<i>sega:h</i>	segoh ("Shashmaqom" ning beshinchi qismi)
سهل	<i>sehel</i>	sahl (oson)
سياد	<i>sayya:d</i>	sayyod (ovchi)
سياح	<i>sayya:h</i>	sayyoh
سياحت، سياحى	<i>saya:hat, sayya:hi:</i>	sayohat, sayyohlik
سياحت نامه	<i>saya:hatna:ma</i>	sayohatnoma
سيار	<i>sayya:r</i>	sayyor (esk. doimo)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
		kezib yuradigan)
سياره	<i>sayya:ra</i>	sayyora (planeta)
سياست	<i>siya:sat</i>	siyosat
سياست دان	<i>siya:satda:n</i>	siyosatdon
سياسي	<i>siya:si:</i>	siyosiy
سياه	<i>siya:h</i>	siyoh (qora)
سياهي دان	<i>siya:hi:da:n</i>	siyohdon
سيخ	<i>si:x</i>	six
سیراب	<i>sera:b</i>	serob (juda ko'p, mo'l-ko'l)
سیر حاصل	<i>se:rha:sil</i>	serhosil (unumdor, hosildor)
سیر سیاحت	<i>seyr-saya:hat</i>	sayr-sayohat
سیر گاه	<i>seyrga:h</i>	sayrgoh
سیل	<i>sel</i>	sel (loy-suv oqimi)
سیلاب	<i>se:la:b</i>	selob (sel suvlari)
سیم	<i>si:m</i>	siym (esk. kumush)
سیما	<i>si:ma:</i>	siymo (qiyofa, chehra)
سیماب	<i>si:ma:b</i>	simob
سیمایی	<i>si:ma:bi:</i>	simobi (kumushrang)
سیمرغ	<i>si:murg'</i>	semurg' (afsonaviy qush)
سینه	<i>si:na</i>	siyna (ko'krak, qalb)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
سيورغال (تارنجي)	<i>suyu:rg'a:l</i>	suyurg'ol (tar. shoh yoki xon tomonidan beriladigan qimmatbaho in'om)

☆☆☆

ش (šīn)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
شاخ	<i>sha:x</i>	shox
شاخ دار	<i>sha:xda:r</i>	shoxli
شاد	<i>shod</i>	shod
شادان	<i>sha:da:n</i>	shodon (quvnoq, shod)
شادمان	<i>sha:dma:n</i>	shodmon (xursand)
شادی	<i>sha:di:</i>	shodlik, xursandchilik (to'y ma'nosida)
شادیانه	<i>sha:dya:na</i>	shodiyona
شاطر	<i>sha:tir</i>	shotir (epchil, chaqqon)
شاعر	<i>sha:ir</i>	shoir
شاعرانه	<i>sha:ira:na</i>	shoirona
شاعره	<i>sha:ira</i>	shoira
شاعری	<i>sha:iri:</i>	shoirlik (she'r yozish)
شاگرد	<i>sha:gird</i>	shogird
شاگردی	<i>sha:girdi:</i>	shogirdlik
شال	<i>sha:l</i>	shol (qalin mato; ro'mol)
شالی (چاول)	<i>sha:li:</i>	sholi
شام	<i>sha:m</i>	shom

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
شان (آبرو)	<i>sha:n</i>	shon (g'urur, faxr)
شان و شوکت	<i>sha:no '-shaokat</i>	shonu shavkat
شاه	<i>sha:h</i>	shoh (podshoh)
شاهانه	<i>sha:ha:na</i>	shohona
شاه بیت	<i>sha:hbeyt</i>	shohbayt (chuqur mazmunli, eng yaxshi she'r)
شاه قوت	<i>sha:htu:t</i>	shotut (meva)
شاهد	<i>sha:hid</i>	shohid (guvoh)
شاه راه	<i>sha:hra:h</i>	shohroh (katta yo'l)
شاه زاده	<i>sha:hza:da</i>	shahzoda
شاهنشاہ	<i>sha:hinsha:h</i>	shohanshoh
شاهی (بادشاهی)	<i>sha:hi:, ba:dsha:hi:</i>	a) shohi (a)shohlarga mansub); b) shoyi (ipak gazlama)
شایان	<i>sha:ya:n</i>	shoyon (munosib, arziydigan)
شب	<i>shab</i>	shab (tun)
شبِ خون	<i>shabe xu:n</i>	shabixun (qo'qqisdan hujum qilish)
شب رنگ	<i>shabrang</i>	shabrang (esk. qora rangli)
شبستان	<i>shabista:n</i>	shabiston (qorong'ulik)
شب کور	<i>shabko 'r</i>	shabko'r (qorong'ida ko'ra olmaydigan)
شب کوری	<i>shabko 'ri:</i>	shabko'rlik

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
شب گرد	<i>shabgard</i>	shabgard (esk. tungi qorovul)
شب وروز	<i>shabo '-ro 'z</i>	shab-ro'z (kechayu kunduz)
شبنام	<i>shabnam</i>	shabnam
شبه	<i>shubha</i>	shubha
شباب	<i>shita:b</i>	shitob (tezlik)
شجاعت	<i>shuja:at</i>	shijoat (jasorat)
شجاعت کار	<i>shuja:atka:r</i>	shijoatkor (jasoratli)
شجره	<i>shajara</i>	shajara
شخص	<i>shaxs</i>	shaxs
شخصاً	<i>shaxsan</i>	shaxsan
شخصی	<i>shaxsi:</i>	shaxsiy
شخصیت	<i>shaxsi:yat</i>	shaxsiyat
شد	<i>shud</i>	shud (layoqat)
شداد	<i>shadda:d</i>	shaddod
شدادی	<i>shadda:di:</i>	shaddodlik
شدت	<i>shiddat</i>	shiddat
شر (برائی)	<i>sharr</i>	shar (yomonlik, yovuzlik)
شراب	<i>shara:b</i>	sharob
شراب خانه	<i>shara:bxana</i>	sharobxona

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
شراب خور	<i>shara:bxo'r</i>	sharobxo'r
شراب خورى	<i>shara:bxo'ri:</i>	sharobxo'rlik
شرارت	<i>shara:rat</i>	sharorat (esk. yomonlik)
شراره	<i>shara:ra</i>	sharora (uchqun)
شرافت	<i>shara:fat</i>	sharofat
شرائط (جمع)	<i>shara:it</i>	sharoit (birlikda)
شربت	<i>sharbat</i>	sharbat
شرح	<i>sharah</i>	sharh
شرط	<i>shart</i>	shart
شرط نامه	<i>shartna:ma</i>	shartnoma
شرعاً	<i>sharan</i>	shar'an (shariatga binoan)
شرعى	<i>sharai:</i>	shar'iy
شرف	<i>sharaf</i>	sharaf
شرق	<i>sharq</i>	sharq
شرقى	<i>sharqi:</i>	sharqiy
شرك	<i>shirk</i>	shirk (gunoh)
شرکت	<i>shirkat</i>	shirkat
شرم	<i>sharm</i>	sharm
شرمسار	<i>sharmsa:r</i>	sharmisor (izza bo'lgan)
شرمندگى	<i>sharmindagi:</i>	sharmandalik

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
شرمنده	<i>sharminda</i>	sharmanda (uyatga qolgan)
شروع	<i>shuru:</i>	shuru (esk. boshlash)
شریعت	<i>shari:at</i>	shariat
شریف	<i>shari:f</i>	sharif (vijdonli)
شریک	<i>shari:k</i>	sherik (do'st)
شطرنج	<i>shatranj</i>	shatranj (shaxmat)
شعار	<i>shia:r</i>	shior
شعبان	<i>sha:ba:n</i>	sha'bon (oying nomi)
شعبه	<i>sho'ba</i>	sho'ba
شعر	<i>sher</i>	she'r
شعراء	<i>shuara:</i>	shuaro (shoirilar)
شعرخوانی	<i>sherxa:ni:</i>	she'rxonlik
شعری	<i>sheri:</i>	she'riy
شعریت	<i>sheri:yat</i>	she'riyat
شعله	<i>sho'la</i>	shu'la
شعور	<i>shaor</i>	shu'ur
شغف	<i>shag'af</i>	shag'af (esk. qiziqish, ishtiyoq)
شفا	<i>shifa:</i>	shifo
شفا بخش	<i>shifobaxsh</i>	shifobaxsh (mas. dori)
شفاخانه	<i>shifa:xa:na</i>	shifoxona

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
شفاعت	<i>shifa:at</i>	shafolat (yaxshilik)
شفاف	<i>shaffa:f</i>	shaffof (sof, tiniq)
شفتالو (اُزو)	<i>shafta:lu:</i>	shaftoli
شفق	<i>shafaq</i>	shafaq
شفقت	<i>shafqat</i>	shafqat
شفيع	<i>shafi:</i>	shafe' (yordam beruvchi, yaxshilik qiluvchi)
شفيق	<i>shafi:q</i>	shafiq (shafqatli, mehrli)
شك	<i>shak</i>	shak
شكار	<i>shika:r</i>	shikor (ov)
شكارچي	<i>shika:rchi:</i>	shikorchi (esk. ovchi)
شكار گاه	<i>shika:rga:h</i>	shikorgoh
شكاک	<i>shakka:k</i>	shakkok (shak bilan qaraydigan)
شكایت	<i>shika:yat</i>	shikoyat
شُكر	<i>shukr</i>	shukr (tashakkur)
شكر (بمعنى چينى)	<i>shakkar</i>	shakar
شُكرانه	<i>shukra:na</i>	shukrona
شكر گفتر	<i>shakkargufta:r</i>	shakarguftor (shirinzabon)
شكر گفترى	<i>shakkargufta:ri:</i>	shakarguftorlik (shirin suhbat)
شكست	<i>shikast</i>	shikast

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
شكسته	<i>shikasta</i>	shikasta (arab yozuvining bir turi)
شكل	<i>shakl</i>	shakl (qiyofa, ko'rinish)
شكلاً	<i>shaklan</i>	shaklan (shaklga ko'ra)
شكل دار	<i>shaklda:r</i>	shakldor (serhasham)
شكل و شاكل	<i>shaklo' -shama:il</i>	shakl-shamoyil (tashqi ko'rinish, qiyofa)
شكجه	<i>shikanja</i>	iskanja
شكوه	<i>shiko'h</i>	shukuh
شكوه	<i>shikva</i>	shikva (shikoyat)
شل	<i>shal</i>	shal (falaj)
شانغم، شانجم	<i>shalg'am, shaljam</i>	sholg'om
شلوار	<i>shalva:r</i>	shalvar
شوله، شله (ايك قسم كا كھانا)	<i>sho'la, shulla</i>	shavla (ovqat)
شمال	<i>shuma:l</i>	shimol
شمالی	<i>shuma:li:</i>	shimoliy
شاكل	<i>shama:il</i>	shamoyil (shakl, tuzilish)
شس	<i>shams</i>	shams (oftob)
شمسی	<i>shamsi:</i>	shamsiy (quyoshga oid)
شمسیه	<i>shamsiya</i>	shamsiya (quyosh) yili
شمشاد	<i>shamsha:d</i>	shamshod (daraxtning nomi)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
شمشير	<i>shamsher</i>	shamshir
شمع	<i>shama</i>	sham (shamchiroq)
شمع دان	<i>shamada:n</i>	shamdon
شنبه	<i>shanba</i>	shanba
شنتقار (ايك پرندە)	<i>shunqa:r</i>	shunqor (yirtqich qush nomi)
شوال	<i>shavva:l</i>	Shavvol (Qamariya yilining o'ninchi oyi)
شوڭ (بمعنى شير)	<i>sho 'x</i>	sho'x, o'yinqaroq
شونخى	<i>sho 'xi:</i>	sho'xlik
شور (تمكين)	<i>sho 'r</i>	sho'r
شور	<i>sho 'r</i>	(g'alayon, shovqin)sho'r
شوراء	<i>shu:ra:</i>	sho'ro (esk. maslahat)
شوربا، شوروا	<i>sho 'rba:, sho 'rva:</i>	sho'rva
شورش (فتنه فساد، غوغا)	<i>sho 'rish</i>	sho'rish (g'avg'o)
شورپده	<i>sho 'ri:da</i>	sho'riyda (hayajon, parishon)
شوق	<i>shaoq</i>	shavq (qiziqish)
شوق و ذوق	<i>shaoqo '- zaoq</i>	zavq-shavq
شوقين (بمعنى دلداره)	<i>shaoqi:n</i>	shovqin (shovqin-suron)
شوكت (عزت، شهرت)	<i>shaokat</i>	shavkat (dovrug', obro')
شوم	<i>shu:m</i>	shum (balo, ofat)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
شُوهر	<i>shaohar</i>	shavhar (esk. er)
شَه، شاه	<i>sheh</i>	shah (qarang شاه)
شَه سوار	<i>shehsava:r</i>	shahsuvor
شَهادت	<i>shaha:dat</i>	shahodat (guvohlik)
شَهادت نامہ (کلمہ شہادت)	<i>shaha:datna:ma</i>	shahodatnoma (guvohnoma)
شَهباز	<i>shehba:z</i>	shahboz (lochin)
شَهتوت	<i>shehtu:t</i>	shotut
شهر	<i>shehr</i>	shahar
شهرت	<i>sho'hrat</i>	shuhrat
شهرت پرست	<i>sho'hratparast</i>	shuhratparast
شهرت پرستی	<i>sho'hratparasti:</i>	shuhratga berilish
شہزادہ	<i>shehza:da</i>	shahzoda
شہوانی	<i>shehva:ni:</i>	shahvoniy (ehtirosli)
شہوت	<i>shehvat</i>	shahvat
شہوت پرست	<i>shehvatparast</i>	shahvatparast (shahvatga berilgan)
شہید	<i>shahi:d</i>	shahid (islom yo'lida halok bo'lgan)
شہیدی	<i>shahi:di:</i>	shahidlik
شے	<i>shay</i>	shay (a. narsa, buyum; b. tayyor)
شیخ	<i>shayx</i>	shayx
شیخ الاسلام	<i>shayxul-islam</i>	shayxul-islom
شیدا	<i>shayda:</i>	shaydo

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
شيدائی	<i>sheyda:i:</i>	shaydoyi (savdoyi, devona)
شیر	<i>shi:r</i>	shir (sut)
شیر	<i>sher</i>	sher (arslon)
شیر بچہ	<i>sherbacha</i>	sherbachcha (dovyurak; baquvvat)
شیر برنج	<i>shi:rbirinch</i>	shirguruch
شیر مال	<i>shi:rma:l</i>	shirmoyi (non)
شیر و شکر	<i>shi:ro-shakkar</i>	shiru shakar
شیرہ (بمعنی شربت)	<i>shi:ra</i>	shira (suyuqlik; sharbat)
شیرین	<i>shi:ri:n</i>	shirin (mazali, totli)
شیرین زبان، شیرین سخن	<i>shi:ri:nzaba:n,</i> <i>shi:rinsuxan</i>	shirinzabon, shirinsuxan
شیرینی	<i>shi:ri:ni:</i>	shirinlik (shiravor)
شیشہ	<i>shi:sha</i>	shisha
شیطان	<i>sheyta:n</i>	shayton
شیطانی	<i>sheyta:ni:</i>	shaytoniy (ayyorlik)
شیطنت	<i>sheytanat</i>	shaytanat (makkorlik, razillik)
شیعہ	<i>shi:a</i>	shia (mazhab)
شیوہ	<i>sheva</i>	sheva (odat, ravish)

ص (su'ād)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
صابر	<i>sa:bir</i>	sobir (sabrli)
صاين	<i>sa:bun</i>	sovun
صاحب	<i>sa:hib</i>	sohib (janob, muhtaram)
صاحب جمال	<i>sa:hibe jama:l</i>	sohibjamol (chiroyli, go'zal)
صاحب كار	<i>sa:hibka:r</i>	sohibkor (o'z ishining ustasi)
صاحبه	<i>sa:hiba</i>	sohiba (muhtarama)
صادر	<i>sa:dir</i>	sodir (ro'y beruvchi)
صادق	<i>sa:diq</i>	sodiq (chin, samimiy)
صاف	<i>sa:f</i>	sof (toza)
صالح	<i>sa:lih</i>	solih (xushaxloq)
صبا	<i>saba:</i>	sabo (tong shabadasi)
صبح	<i>subh, suba</i>	subh (sahar)
صبح دم	<i>subhe dam</i>	subhidam (erta tong)
صبح صادق	<i>subhe sa:diq</i>	subhi sodiq (tongotar payti)
صبح كاذب	<i>subhe ka:zib</i>	subhi kozib (yolg'on tong)
صبر	<i>sabr</i>	sabr
صبحو جى	<i>subu:hi:</i>	sabuhiy (esk. xumorni yozish uchun ertalab)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
		ichiladigan may)
صحابہ	<i>saha:ba</i>	sahobalar (Muhammad s.a.v.ning safdoshlari)
صحاف	<i>sahha:f</i>	sahhof (esk. muqovasoz)
صحبا	<i>sehba:</i>	sahbo (esk. qizil rangli may)
صحبت	<i>so'hbat</i>	suhbat (musohaba)
صحت	<i>sehet</i>	sihat
صحت گاہ	<i>sehetga:h</i>	sihatgoh
صحرا	<i>sehra:</i>	sahro
صحرائی	<i>sehra:i:</i>	sahroyi (sahroga tegishli)
صحن	<i>sehn</i>	sahn
صحیح	<i>sahi:h</i>	sahih (to'g'ri)
صحیفہ، صفحہ	<i>sahi:fa, safha</i>	sahifa
صد	<i>sad</i>	sad (yuz)
صدّ	<i>sadd</i>	sadd (to'siq, g'ov)
صدا	<i>sada:</i>	sado (tovush, ovoz)
صداقت	<i>sada:qat</i>	sadoqat
صدر	<i>sadr</i>	sadr
صدف	<i>sadaf</i>	sadaf (dur)
صدق دل	<i>sidqe dil</i>	sidqidil (chin yurak)
صدقہ	<i>sadqa</i>	sadaqa

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
صراف	<i>sarra:f</i>	sarrof (pul ayirboshlovchi)
صرف	<i>sarf</i>	sarf (morfologiya)
صرف	<i>sarf</i>	sarf (chiqim, xarajat)
صغیر	<i>sag'i:r</i>	sag'ir (kichik)
صف	<i>saf</i>	saf (qator)
صفا	<i>safa:</i>	safo (soflik, tozalik)
صف بستہ	<i>safbasta</i>	safbasta (safdosh)
صفت	<i>sifat</i>	sifat
صفحہ	<i>safha</i>	sahifa
صفر (قمری سال کا دوسرا مہینہ)	<i>safar</i>	Safar (safar oyi)
صفر	<i>sifar</i>	sifr (nol, hech narsa)
صفرا	<i>safra:</i>	saftro (o't)
صلابت	<i>sala:bat</i>	salobat (qat'iylik)
صلوات	<i>sala:t</i>	salot (namoz; ibodat)
صلاح	<i>sala:h</i>	saloh (yaxshilik)
صلاحیت	<i>sala:hi:yat</i>	salohiyat
صلح	<i>sulh</i>	sulh (tinchlik)
صلح نامہ	<i>sulhna:ma</i>	sulhnoma
صلوات	<i>salava:t</i>	salavot
صلیب	<i>sali:b</i>	salib (xoch, krest)
صمیمی	<i>sami:mi:</i>	samimiy
صمیمیت	<i>sami:miyat</i>	samimiyat

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
صناعت	<i>sana:at</i>	sanoat
صانع	<i>sana:i:</i>	sanoyi (badiiy san'at)
صندل	<i>sandal</i>	sandal (xushbo'y daraxt)
صندوق	<i>sandu:q</i>	sandiq
صندوقچہ	<i>sandu:qcha</i>	sandiqcha
صنعت	<i>sanat</i>	san'at
صنعت کار (بمعنى businessman)	<i>sanatka:r</i>	san'atkor (san'at sohasini egallagan ijodkor)
صنف (طبقه؛ جماعت)	<i>sinf</i>	sinf (a)xil, nav; b) maktabdagi har bir bosqich)
صنم	<i>sanam</i>	sanam (go'zal; mahbuba)
صنوبر	<i>sano'bar</i>	sanobar (tik o'suvchi daraxt)
صوت	<i>saot</i>	(sado,tovush) savt
صورت	<i>su:rat</i>	surat (shakl, qiyofa)
صوفی	<i>su:fi:</i>	so'fiy (darvesh, zohid)
صوفیانہ	<i>su:fiya:na</i>	sufiyona (soddalarcha, kamtarona)
صولت (رعب)	<i>saolat</i>	savlat (mahobat)
صیاد	<i>sayya:d</i>	sayyod (esk. ovchi)
صيد	<i>sayd</i>	sayd (o'lja, ov qilish)
صیتل	<i>seyqal</i>	sayqal (jilo, husn berish)

ض (zu'ād)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
ضابط	za:bit	zobit (zabt etubchi, ofitser)
ضامن	za:min	zomin
ضائع	za:e	zoye
ضبط	zabt	zabt
ضد	zid	zid (qarama-qarshilik; aksincha)
ضديت	ziddi:at	ziddiyat
ضرب	zarb	zarba
ضرب المثل	zarbulmasal	zarbulmasal
ضربه	zarba	zarba
ضرر	zarar	zarar (ziyon)
ضرور	zaru:r	zarur (lozim)
ضرورت	zaru:rat	zarurat
ضرورت مند	zaru:ratmand	zaruratmand (ehtiyojmand)
ضروری	zaru:ri:	zaruriy
ضروریات	zaru:riya:t	zaruriyat
ضعیف	zai:f	zaif (kuchsiz, numjon)
ضعیفانه	zaifa:na	zaifona (kuchsiz)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
ضعيفه (بوڑھی عورت)	<i>zai:fa</i>	zaifa (ayol;rafiqa)
ضعيفی	<i>zai:fi:</i>	zaiflik (ojizlik)
ضلالت	<i>zala:lat</i>	zalolat (yo'ldan adashish)
ضم	<i>zam</i>	zam (qo'shish; ilova qilish)
ضمن	<i>zimn</i>	zimn
ضمناً	<i>zimnan</i>	zimnan (zimdan)
ضمه	<i>zamma</i>	zamma (arab so'zlarida vergul shaklidagi belgi)
ضمير (قلب؛ ايمان)	<i>zami:r</i>	zamir (mohiyat)
ضياء	<i>ziya:</i>	ziyo (nur)
ضيافت	<i>ziya:fat</i>	ziyofat
ضيق	<i>zi:q</i>	ziq (tig'iz, tor)

ط (tō'ē)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
طاس	<i>ta:s</i>	tos (katta idish; tog'ora)
طاعت	<i>ta:at</i>	toat (bo'ysunish)
طاعت، عبادت	<i>ta:at-iba:dat</i>	toat-ibodat
طاق (بمعنى محراب)	<i>ta:q</i>	toq (juftsiz; yolg'iz)
طاقت (قوت)	<i>ta:qat</i>	toqat (sabr)
طاقت طاق (هونا)	<i>ta:qat ta:q ho'na</i>	toqati toq (bo'lmoq)
طاچہ	<i>ta:qcha</i>	tokcha, toqcha
طالب	<i>ta:lib</i>	tolib (xohlovchi, izlovchi)
طالب علم	<i>ta:libe ilm</i>	tolibi ilm
طالع	<i>ta:le</i>	tole (taqdir, qismat)
طالع مند	<i>ta:lemand</i>	tolemand (baxtli)
طاؤس	<i>ta:us</i>	tovus (qush)
طائفہ	<i>ta:ifa</i>	toifa (guruh, tur)
طب	<i>tab</i>	tab (isitma, harorat)
طب	<i>tibb</i>	tib (tabobat; salomatlik)
طبابت	<i>taba:bat</i>	tabobat (davolash)
طباعت	<i>taba:at</i>	taboat (nashrchilik; nashriyot)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
طباق	<i>taba:q</i>	tovoq, lagan
طبع	<i>taba</i>	tab' (mijoz, tabiat)
طبعاً	<i>taban</i>	tab'an (tabiatan)
طبق	<i>tabaq</i>	tovoq; likobcha
طبقاتی	<i>tabqa:ti</i>	tabaqali (biron guruh yoki toifaga tegishli)
طبقة	<i>tabqcha</i>	tovoqcha
طبقة	<i>tabqa</i>	tabaqa (qatlam)
طبل	<i>tabl</i>	tabl (nog'ora)
طبی	<i>tibbi:</i>	tibbiy
طیب	<i>tabi:b</i>	tabib
طیبی	<i>tabi:bi:</i>	tabiblik (tabobatga tegishli)
طبیعیات	<i>tabi:a:t</i>	tabiyat (borliq, olam)
طبیعت (مزاج)	<i>tabi:at</i>	tabiat, kayfiyat (salomatlik)
طبیعتاً	<i>tabi:atan</i>	tabiatan (mijoziga ko'ra)
طبیعی	<i>tabei:</i>	tabiiy
طپنچہ، طپانچہ	<i>tapancha, tapa:ncha</i>	to'pponcha
طراوت	<i>tara:vat</i>	tarovat (so'lim holat)
طرز	<i>tarz</i>	tarz (usul, uslub)
طرف	<i>taraf</i>	taraf

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
طرف بطرف	<i>taraf-bataraf</i>	tarafma-taraf
طرف دار	<i>tarafda:r</i>	tarafdor
طرف داری	<i>tarafda:ri:</i>	tarafdorlik
طرف کش	<i>tarafkash</i>	tarafkash (tarafdor)
طرفه	<i>turfa</i>	turfa (turli)
طرفین	<i>tarafayn</i>	tarafayn (har ikki taraf)
طره	<i>turra</i>	turra (o'ziga xos, ajratib turadigan narsa)
طریق، طریقه	<i>tari:q, tari:qa</i>	tariqa, tariq (yo'l, usul)
طریقّت	<i>tari:qat</i>	tariqat (yo'l, usul)
طعام	<i>taa:m</i>	taom
طعام پز	<i>taa:mpaz</i>	taompaz (oshpaz)
طعام خانہ	<i>taa:mxana</i>	taomxona (oshxona)
طعم	<i>ta:m</i>	ta'm (maza)
طعنہ	<i>ta:na</i>	ta'na (minnat)
طعنہ آمیز	<i>ta:naa:me:z</i>	ta'naomuz
طغرا	<i>tug'ra:</i>	tug'ro (bezakli yozuv; belgi)
طغیان	<i>tug'ya:n</i>	tug'yon (toshqin)
طفیل	<i>tufeyl</i>	tufayli
طلا	<i>tilla:</i>	tilla (oltin)
طلا دوز	<i>tilla:do'z</i>	tillado'z

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
طلادوزى	<i>tilla:do'zi:</i>	tillado'zlik
طلاق	<i>tala:q</i>	taloq
طلاق نامہ	<i>tala:qna:ma</i>	taloqnoma
طلاکار	<i>tilla:ka:r</i>	tillakor
طلاکاری	<i>tilla:ka:ri:</i>	tillakorlik
طلب	<i>talab</i>	talab
طلب گار	<i>talabga:r</i>	talabgor
طلبا، طلبہ (جمع)	<i>tulaba:, tulaba</i>	talaba (birlikda)
طلب نامہ	<i>talabna:ma</i>	talabnoma
طلسم	<i>tilism</i>	tilsim (sehrli narsa, jodu)
طلسمات (طلسم سے جمع)	<i>tilisma:n</i>	tilsimot (ko'p tilsim)
طلسمی	<i>tilismi:y</i>	tilsimli (sehrli)
طاعت	<i>talat</i>	tal'at (chehra, qiyofa)
طمطراق	<i>tumtara:q</i>	tumtaroq (dabdaba gaplar)
تمع	<i>tama</i>	ta'ma (ochko'zlik)
تمع گیر، تمع کار	<i>tamagi:r, tamaka:r</i>	ta'magir (ochko'z)
تمع گیری	<i>tamagi:ri:</i>	ta'magirlik
طمپچہ، طمانچہ	<i>tama:ncha</i>	shapaloq
طناب	<i>tana:b</i>	tanob (arqon)
طناز (نازواندازوالی)	<i>tanna:z</i>	tannoz

اُردو	تلفظ	اُزبیک
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
طنازی	<i>tanna:zi:</i>	tannozlik (karashma)
طنبور، طنبورہ	<i>tanbu:r, tanbu:ra</i>	tanbur
طنبورچی	<i>tambu:rchi:</i>	tanburchi
طنز	<i>tanz</i>	tanz (mazah qilish)
طنز آمیز	<i>tanza:mez</i>	tanzomuz (hazil-mazah aralash)
طنزاً	<i>tanzan</i>	tanz bilan
طنطنہ	<i>tantana</i>	tantana (shonu shavkat)
طواف	<i>tava:f</i>	tavof (atrofida aylanish)
طور	<i>taor</i>	tavr, tugur (ahvol)
طوطا، طوطی	<i>to'ta:, to'ti:</i>	to'ti
طوطیا	<i>tu:tiya:</i>	tutiyo (surma)
طوغ	<i>tu:g'</i>	tug' (bayroq)
طوفان	<i>tu:fa:n</i>	to'fon
طوق	<i>taoq</i>	tavq (jabr-zulm)
طومار (تعویذ جویری نظر سے بچاتا ہے)	<i>tu:ma:r</i>	tumor (balo, ko'z tegishdan saqlanish uchun)
طوئی (بمعنی خوشی اور شادی)	<i>tu:i:, to'y</i>	to'y
طہارت	<i>taha:rat</i>	tahorat
طہارت خانہ	<i>taha:ratxa:na</i>	tahoratxona
طے	<i>tey</i>	tay (qaror)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
طياره	<i>tayya:ra</i>	tayyora (samolyot)
طياره چي	<i>tayya:rachi:</i>	tayyorachi (esk. uchuvchi)
طياره گاه	<i>tayya:raga:h</i>	tayyoragoh (esk. aeroport)

☆☆☆

ظ (zō'ē)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
ظالم	za:lim	zolim
ظالمانہ	za:lima:na	zolimona
ظاہر	za:hir	zohir (tashqi ko'rinish)
ظاہراً	za:hiran	zohiran (tashqi ko'rinishdan)
ظاہری	za:hiri:	zohiriy (tashqi)
ظرافت	zara:fat	zarofat (go'zallik,zukkolik)
ظرف	zarf	zarf (idish-tovoq)
ظریف	zari:f	zarif (go'zal, zebo, nafis)
ظفر	zafar	zafar (g'alaba)
ظفر مند	zafarmand	zafarli (g'alaba qozongan)
ظفر نامہ	zafarna:ma	zafarnoma
ظفری	zafari:	zafarli (g'alaba qozongan)
ظل الہی	zille ila:hi:	zilli -ilohiy (Ollohning soyasi)
ظلم	zulm	zulm
ظلمت	zulmat	zulmat (qorong'ilik)
ظلمت کدہ	zulmatkada	zulmatkada (qamoqxona)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
ظلم كار	<i>zulmka:r</i>	zulmkor (zolim)
ظہر	<i>zuhr</i>	zuhr (peshin)
ظہور	<i>zuhu:r</i>	zukur (ko'rinish, namoyon bo'lish)
ظہیر	<i>zahi:r</i>	zahir (homi; yordamchi)

ع (ain)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
عابد	<i>a:bid</i>	obid (ibodat qiluvchi, xudojo'y)
عاجز	<i>a:jiz</i>	ojiz
عاجزانه	<i>a:jiza:na</i>	ojizlarcha
عاجزى	<i>a:jizi:</i>	ojizlik (zaiflik)
عادت	<i>a:dat</i>	odat, rasm
عادتاً	<i>a:datan</i>	odatiy (odatdagidek)
عادتي	<i>a:dati:</i>	odatiy (odatdagi)
عادل	<i>a:dil</i>	odil
عادلانه	<i>a:dila:na</i>	odilona
عادى	<i>a:di:</i>	oddiy (kamsuqum)
عار	<i>a:r</i>	or-nomus (uyat)
عارض	<i>a:raz</i>	oraz (yuz, chehra)
عارف	<i>a:rif</i>	orif (bilimdon)
عاريت	<i>a:ri:yat</i>	oriyat
عاريتاً	<i>a:ri:yatan</i>	oriyatan
عاريت مند	<i>a:ri:yatmand</i>	oriyatmand (or-nomusli)
عاشق	<i>a:shiq</i>	oshiq (xushtor)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
عاشق معشوق	<i>a:shiq-ma:shu:q</i>	oshiq-ma'shuq
عاشقى	<i>a:shiqi:</i>	oshiqlik (xushtorlik)
عاصى	<i>a:si:</i>	osiy (gunohkor)
عافيت	<i>a:fi:yat</i>	ofiyat (osoyishtalik)
عاق	<i>a:q</i>	oq (itoatsiz, so'zga kirmaydigan)
عاقبت	<i>a:qibat</i>	oqibat (natija)
عاقل	<i>a:qil</i>	oqil (aqlli, farosatli)
عاقلاڻە	<i>a:qila:na</i>	oqilona
عاقلا	<i>a:qila</i>	oqila (aqlli ayol)
عالم	<i>a:lam</i>	olam
عالم	<i>a:lim</i>	olim
عالمنا	<i>a:lima:na</i>	olimona (donolik bilan)
عالم پناه	<i>a:lampana:h</i>	olampanoh
عالم گير	<i>a:lamgi:r</i>	olamgir (olamni zabt etuvchi)
عالى	<i>a:li:</i>	oliy
عالى جناب	<i>a:li:jana:b</i>	oliyjanob (yuksak martabali)
عالى مقام	<i>a:li:muqa:m</i>	yuksak (oliy) maqom
عالى همت	<i>a:li:himmat</i>	oliyhimmat
عالى همتى	<i>a:li:himmati:</i>	oliyhimmatlik (saovatlilik)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
عالیه	<i>a:li:ya</i>	oliya
عامل	<i>a:mil</i>	omil (sabab)
عامه (عوام)	<i>a:mma</i>	omma (xalq)
عامی	<i>a:mi:</i>	omi (oddiy; savodsiz)
عائد	<i>a:id</i>	oid (tegishli)
عائله (بمعنی خاندان)	<i>a:ila</i>	oila
عائلی	<i>a:ili:</i>	oilaviy
عبادت	<i>iba:dat</i>	ibodat
عبادت خانہ	<i>iba:datxa:na</i>	ibodatxona
عبادت گاہ	<i>iba:datga:h</i>	ibodatgoh
عبارت	<i>iba:rat</i>	ibora (gap)
عبرت	<i>ibrat</i>	ibrat (o'rnak)
عبرت آمیز	<i>ibrata:mez</i>	ibratomuz (ibratli)
عتاب	<i>ita:b</i>	itob (malomat, qiynoq)
عجائب	<i>aja:ib</i>	ajoyib
عجابات	<i>aja:iba:t</i>	ajoyibotlar
عجائب و غرائب	<i>aja:ibo' g'ara:ib</i>	ajoyibu g'aroyib
عجب	<i>ajab</i>	ajab
عجم (ایران)	<i>ajam</i>	ajam (esk. Eron)
عجوز	<i>aju:z</i>	ajuz (esk. chol)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
عجوزه	<i>aju:za</i>	ojiza, (esk. kampir)
عجيب	<i>aji:b</i>	ajib
عجيب و غريب	<i>aji:bo' g'ari:b</i>	ajoyibu g'aroyib
عدالت	<i>ada:lat</i>	adolat
عداوت	<i>ada:vat</i>	adovat
عدد	<i>adad</i>	adad (son, miqdor)
عدل	<i>adl</i>	adl (adolat)
عدليه	<i>adli:ya</i>	adliya (sud idorasi)
عدوم	<i>udu:m</i>	udum (odat, rasm)
عدیل	<i>adi:l</i>	adl (egilmagan, tik turgan)
عذاب	<i>aza:b</i>	azob (uqubat)
عذر	<i>uzr</i>	uzr
عرايه عراوه (گاڑی)	<i>ara:ba, ara:va</i>	arava, (esk.)aroba
عرش	<i>arsh</i>	arsh (osmon)
عرض	<i>arz</i>	arz (gap; murojaat)
عرض گو	<i>arzgo'</i>	arzgo'y
عرف	<i>urf</i>	urf (laqab ; urf-odat)
عرفان	<i>irfa:n</i>	irfon (Allohni bilish; haqiqat)
عرفه	<i>arafa</i>	arafa
عرق	<i>araq</i>	aroq

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
عرق	<i>irq</i>	irq (nasl,zot)
عرقى	<i>irqi:</i>	irqiy
عروض	<i>aru:z</i>	aruz (vazn)
عريان	<i>urya:n</i>	uryon (yalang'och)
عريضه	<i>ariza</i>	ariza
عزا	<i>aza:</i>	aza (motam)
عزادار	<i>aza:da:r</i>	azador
عزت	<i>izzat</i>	izzat (hurmat)
عزت دار	<i>izzatda:r</i>	izzatdor (hurmatli)
عزت واکرام	<i>izzato' ikra:m</i>	izzat-ikrom
عزرائيل	<i>azra:il</i>	Azroil (o'lim farishtasi)
عزالت	<i>uzlat</i>	uzlat (tanholik)
عزم	<i>azm</i>	azmu qaror
عزیز	<i>azi:z</i>	aziz
عزیمت	<i>azi:mat</i>	azimat (intilish)
عسکر	<i>askar</i>	askar
عسکری	<i>askari:</i>	askariy (harbiy)
عسل (شہد)	<i>asal</i>	asal
عشاق (عاشق سے جمع)	<i>ushsha:q</i>	ushshoq (oshiqlar)
عشر	<i>ushr</i>	ushr (tar. dehqonchilikda)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
		olinadigan soliq turi)
عشرت	<i>ishrat</i>	aysh-ishrat
عشرت پرست	<i>ishratparast</i>	ishratparast
عشرت گاه	<i>ishratga:h</i>	ishratxona
عشره ، عاشوره	<i>ashra, a:shu:ra</i>	Ashr oyi
عشق	<i>ishq</i>	ishq
عشق باز	<i>ishqba:z</i>	ishqiboz
عشقی	<i>ishqi:</i>	ishqiy
عشوہ	<i>ishva</i>	ishva
عشوہ گر	<i>ishvagar</i>	ishvagar
عصا	<i>asa:</i>	esk. hassa (aso)
عصب	<i>asab</i>	asab
عصبی	<i>asabi:</i>	asabiy
عصر	<i>asr</i>	asr (namozi)
عصر	<i>asr</i>	asr (davr, yuz yil)
عصری	<i>asri:</i>	asriy (asrga oid)
عصمت	<i>ismat</i>	ismat (or-nomus, sha'n)
عصیان (گناه)	<i>isya:n</i>	isyon
عصیان کار	<i>isya:nka:r</i>	isyonkor
عضو	<i>uzv</i>	uzv (bo'lak, qism)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
عضوى	<i>uzvi:</i>	uzviy
عطا	<i>ata:</i>	ato
عطار	<i>atta:r</i>	attor
عطر	<i>itr</i>	atir
عطر ساز	<i>itrsa:z</i>	atirsoz, attor
عطيه	<i>atiya</i>	atiya (tuhfa)
عظمت	<i>azmat</i>	azamat
عظيم	<i>azi:m</i>	azim
عفار	<i>ifa:r</i>	ifor
عفت	<i>iffat</i>	iffat
عفو	<i>afu:</i>	avf (kechirish, uzr)
عفيفه	<i>afi:fa</i>	afifa (esk. iffatli ayol)
عقرب	<i>aqrab</i>	aqrab (chayon: burjning nomi)
عقل	<i>aql</i>	aql
عقلاً	<i>aqlan</i>	aqlan (aql bilan)
عقلمند	<i>aqlmand</i>	aqlmand
عقلی	<i>aqli:</i>	aqliy
عقوبت	<i>uqu:bat</i>	uqubat
عقیدت	<i>aqi:dat</i>	aqida (e'tiqod, iymon)
عقیق	<i>aqi:q</i>	aqiq, haqiq (qizil rangli qimmatbaho tosh)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
عقېقه	<i>aqi:qa</i>	aqiqa
عكس	<i>aks</i>	aks
علاج	<i>ila:j</i>	iloj (chora)
علاحدە، عېلجىرە، علجىرە	<i>ala:hida, alehida</i>	alohida
علاقە	<i>ila:qa</i>	aloqa
علاقەدار	<i>ala:qada:r</i>	aloqador
علامت	<i>ala:mat</i>	alomat (belgi)
علامە	<i>alla:ma</i>	alloma
علاوہ	<i>ila:va</i>	ilova
علت	<i>illat</i>	illat
علف	<i>alaf</i>	alaf (esk. xashak, o't)
عَلَم	<i>alam</i>	alam (tug', bayroq)
عِلْم	<i>ilm</i>	ilm
علمبردار	<i>alambarda:r</i>	alamdor (bayroqdor)
علمدان	<i>ilmda:n</i>	ilmdon
علماء (جمع)	<i>ulama:</i>	ulamo (birlik sonda)
علمبردار	<i>alambarda:r</i>	alambardor, bayroqdor
علم پرور	<i>ilmparvar</i>	ilmparvar
علم گاه	<i>ilmga:h</i>	ilmgoh
علمی	<i>ilmi:</i>	ilmiy

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
عم	<i>amm</i>	amaki (otaning akasi yo ukasi)
عمارت	<i>ima:rat</i>	imorat
عمامة	<i>ama:ma</i>	amoma (salla)
عمر	<i>umr</i>	umr
عمره	<i>umra</i>	umra
عمل	<i>amal</i>	amal
عمل دار	<i>amalda:r</i>	amaldor, rahbar
عملی	<i>amli:</i>	amaliy
عموماً	<i>umu:man</i>	umuman
عمومی	<i>umu:mi:</i>	umumiy
عمة	<i>amma</i>	amma
عناب	<i>unna:b</i>	unnobi (chilonjiyda)
عناد	<i>ena:d</i>	inod (o'jarlik, dushmanlik)
عنان	<i>ina:n</i>	inon (jilov, boshqarish)
عنایت (مهربانی)	<i>ina:yat</i>	inoyat, iltifot
عنبر	<i>ambar</i>	anbar
عنبر افشاں	<i>ambarafsha:N</i>	anbarafshon (xushbo'y hid tarqatuvchi)
عندليب (بلبل)	<i>andali:b</i>	andalib esk. (bulbul)
عنصر	<i>unsur</i>	unsur (bo'lim, qism)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
عنقا	<i>anqa:</i>	anqo (afsonaviy qush)
عنوان	<i>unva:n</i>	unvon
عوام	<i>ava:m</i>	avom (xalq)
عود	<i>u:d</i>	ud (ko'p torli musiqa asbobi)
عورت	<i>aorat</i>	avrat (jinsiy a'zo)
عوض	<i>evaz</i>	evaz (o'rniga)
عهد	<i>ehed</i>	davr, ahd
عهدنامه	<i>ehedna:ma</i>	ahdnoma
عہدہ	<i>o'hda</i>	o'hda (mansab)
عهد و پیمان	<i>ehdo' peima:n</i>	ahd-paymon
عیار	<i>ayya:r</i>	ayyor
عیاری	<i>ayya:ri:</i>	ayyorlik
عیاشی	<i>ayya:shi:</i>	ayyoshlik (kayfu safoga berilish)
عیال	<i>aya:l</i>	ayol (xotin, bola-chaqa)
عیان	<i>aya:N</i>	ayon, ochiq-oydin
عیب	<i>eyb</i>	ayb
عیب دار	<i>eybda:r</i>	aybdor
عیبی	<i>eybi:</i>	aybli (aybdor)
عید	<i>i:d</i>	iyd (hayit)
عیدِ قربان	<i>i:de qurba:n</i>	iydi qurbon (Qurbon

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
		hayiti)
عيد الفطر	<i>i:dul fitr</i>	iydul fitr
عيدى	<i>i:di:</i>	iydi (hayitlik)
عيش	<i>eysh</i>	aysh-ishrat
عيش و عشرت	<i>eysho ' ishrat</i>	ayshu ishrat
عيناً	<i>eynan</i>	aynan
عينك	<i>eynak</i>	oynak (ko'zoynak)
عينى	<i>eyni:</i>	ayni (aynan)

غ (ğain)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
غار	<i>g'a:r</i>	g'or
غارت	<i>g'a:rat</i>	g'orat (talon-taroj)
غارت گر	<i>g'a:ratgar</i>	g'oratgar (esk. talonchi, g'oratchi)
غارت گری	<i>g'a:ratgari:</i>	g'oratgarlik (esk. talon-tarojlik)
غازه	<i>g'a:za</i>	g'oza (esk. qizilrang upa)
غازی	<i>g'a:zi:</i>	g'oziy (mujohid)
غانل	<i>g'a:fil</i>	g'ofil (beparvo)
غانلی	<i>g'a:fili:</i>	g'ofillik (beg'amlik)
غالب	<i>g'a:lib</i>	g'olib
غایت	<i>g'a:yat</i>	g'oyat (nihoyat, juda)
غائب	<i>g'a:ib</i>	g'oyib (yashirin, pinhona)
غائبانه	<i>g'a:iba:na</i>	g'oyibona
غبار	<i>g'uba:r</i>	g'ubor, chang-to'zon
غدار	<i>g'adda:r</i>	g'addor, (xoin)
غداری	<i>g'adda:ri</i>	g'addorlik, xoinlik
غدنګ	<i>g'adang</i>	g'adang, nodon
غدير	<i>g'adi:r</i>	g'adir

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
غذا	<i>g'iza:</i>	g'izo (ovqat, egulik)
غزارة	<i>g'arra:ra</i>	g'arg'ara (tomoqni chayqash)
غرائب	<i>g'ara:ib</i>	g'aroyib
غرائبات	<i>g'ara:iba:t</i>	g'aroyibot
غرب	<i>g'arb</i>	g'arb
غربال، غلبير	<i>g'irba:l</i>	g'alvir
غربت	<i>g'urbat</i>	g'urbat (safarda bo'lish)
غربي	<i>g'arbi:</i>	g'arbiy
غرض (بمعنى مطلب)	<i>g'araz</i>	g'araz (ko'rolmaslik)
غرض گو	<i>g'arazgo'</i>	g'arazgo'y (g'arazchi)
غرغره	<i>g'arg'ara</i>	g'arg'ara
غرق	<i>g'arq</i>	g'arq (botish, cho'kish)
غرقاب	<i>g'arqa:b, g'arqob</i>	girdob
غروب	<i>g'uru:b</i>	g'urub (oftob yoki oy botish payti)
غردر	<i>g'uru:r</i>	g'urur
غردرانه	<i>g'uru:ra:na</i>	takabburona
غريب	<i>g'ari:b</i>	g'arib, bevatan
غريبانه	<i>g'ari:ba:na</i>	g'aribona
غريبى	<i>g'ari:bi:</i>	g'ariblik, kambag'allik
غريق	<i>g'ari:q</i>	g'ariq (cho'kkan,

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
		botgan)
غزال	<i>g'azza:l</i>	g'izol (ohu)
غزل	<i>g'azal</i>	g'azal
غزل خواں	<i>g'azalxa:N</i>	g'azalxon, g'azalgo'y
غزل خوانى	<i>g'azalxa:ni:</i>	g'azalxonlik
غزل نويس	<i>g'azalnavi:s</i>	g'azalnavis, g'azal yozuvchi
غزليات	<i>g'azalya:t</i>	g'azaliyot
غزوات	<i>g'azava:t</i>	g'azavot, jihod
غسال	<i>g'assa:l</i>	g'assol, yuvuvchi
غسل	<i>g'usl</i>	g'usl, yuvinish
غسل خانه	<i>g'uslxa:na</i>	g'uslxona
غش	<i>g'ash</i>	g'ash, g'ashlik a) xushidan ketish; b) diligirlik
غشى	<i>g'ashi:</i>	g'ashlik (ta'bi xiralik)
غصب	<i>g'asb</i>	g'asb (zo'rlab tortib olish)
غصه	<i>g'ussa</i>	g'ussa (g'am-alam)
غضب	<i>g'azab</i>	g'azab (qahr, jahl)
غضب الہی	<i>g'azbe-ila:hi:</i>	Allohning g'azabi
غضبناک	<i>g'azabna:k</i>	g'azabnok (g'azabli)
غفار	<i>g'affar</i>	g'affor (Allohning sifatlaridan biri)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
غفلت	<i>g'aflat</i>	g'aflat (beparvolik)
غلاف	<i>g'ila:f</i>	g'ilof (qobiq, qoplama)
غلام	<i>g'ula:m</i>	g'ulom (qul)
غلامی	<i>g'ula:mi:</i>	g'ulomlik, qullik
غلبه	<i>g'alba</i>	g'alaba
غلط	<i>g'alat</i>	g'alat (xato; adashish)
غاطک، غلتک	<i>g'altak</i>	g'altak, chig'ir
غلطی	<i>g'alti:</i>	g'alati (xato; ajoyib)
غناخله	<i>g'ulg'ula</i>	g'ulg'ula (ga'vg'o, to'polon)
غمان	<i>g'ilma:n</i>	g'ilmonlar (jannatdagi hurlar)
غله	<i>g'alla</i>	g'alla (don)
غله زار	<i>g'allaza:r</i>	g'allazor
غلیان	<i>g'aliya:n</i>	g'alayon (jo'sh urish, hayajon)
غلیان، قلیان	<i>g'a:liya:n, qaliya:n</i>	g'aliyan (kalyon)
غلیظ	<i>g'ali:z</i>	g'aliz (qo'pol, dag'al)
غم	<i>g'am</i>	g'am
غمناز	<i>g'amma:z</i>	g'ammaz (chaqimchi, g'iybatchi)
غم خوار	<i>g'amxa:r</i>	g'amxo'r
غم خواری	<i>g'amxa:ri:</i>	g'amxo'rlik

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
غمزده	<i>g'amzada</i>	g'amzada (ezilgan, parishonhol)
غمزه	<i>g'amza</i>	g'amza
غمکش	<i>g'amkash</i>	gamkash, ranjida
غم گسار	<i>g'amgusa:r</i>	g'amgusor (mehribon)
غم گین	<i>g'amgi:n</i>	g'amgin, g'amli, ma'yus
غم ناک	<i>g'amna:k</i>	g'amnok (qayg'uli)
غنایت	<i>g'ina:yat</i>	musiqiylik, tarannum
غنچه	<i>g'uncha</i>	g'uncha
غنچه لب	<i>g'unchalab</i>	g'unchalab
غنی	<i>g'ani:</i>	g'ani, davlatmand
غنیم	<i>g'ani:m</i>	g'anim (dushman)
غنیمت	<i>g'ani:mat</i>	g'animat (o'lja, qo'lga kiritilgan narsa)
غواص	<i>g'avva:s</i>	g'avvos (suvga sho'ng'uvchi)
غور، غوره	<i>g'o'r-g'o'ra</i>	xom, pishmagan
غوزه	<i>g'oza</i>	g'o'za
غوغا	<i>g'aog'a:</i>	g'avg'o (baqir-chaqir)
غیب	<i>g'eyb</i>	g'ayb (yo'qlik)
غیبت	<i>g'i:ybat</i>	g'iybat
غیچک	<i>g'i:chak</i>	g'ijjak

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
غیر	<i>g'eyr</i>	g'ayr (boshqa, notanish)
غیر اختیاری	<i>g'eyre-ixtiya:ri:</i>	g'ayriixtiyoriy (ixtiyorsizlik bilan qilingan)
غیر اخلاقی	<i>g'eiraxla:qi:</i>	g'ayriaxloqiy (axloqqa zid bo'lgan)
غیرت (حیا، شرم)	<i>g'eyrat</i>	g'ayrat (ishtiyoq)
غیظ (غضب)	<i>g'eyz</i>	g'eyz (g'azab, qahr)

ف (fe)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
فاتح	<i>fa:teh</i>	fotih (g'olib)
فاتحه	<i>fa:teha</i>	fotiha
فاتحه خوانی	<i>fa:tihaxa:ni:</i>	fotihaxonlik
فاجر	<i>fa:jir</i>	fojir (esk badkor, buzuq)
فاجعه	<i>fa:jea</i>	fojia (mudhish holat, falokat)
فاحش	<i>fa:hish</i>	fohish (esk buzuq, axloqsiz)
فاحشه	<i>fa:hisha</i>	fohisha
فاحشه باز	<i>fa:hishaba:z</i>	fohishaboz
فاحشه بازی	<i>fa:hishaba:zi:</i>	fohishabozlik (zinokorlik)
فاخته	<i>fa:xta</i>	foxta (kaptardan kichikroq qush turi - to'rg'ay)
فاخره	<i>fa:xira</i>	foxira (esk ko'rkam, kelishgan)
فارس، فارسی	<i>fa:rs, fa:rsiy</i>	fors, forsiy (tili)
فارسی گو	<i>fa:rsi:go</i>	forsigo'y
فارغ	<i>fa:rig'</i>	forig' (bo'sh, osuda)
فارغ البال	<i>fa:rig'-ulba:l</i>	forig'ulbol (esk tinch, xotirjam)
فاسد	<i>fa:sid</i>	fosid (axloqsiz, buzuq)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
فاسق	<i>fa:siq</i>	fosiq (buzuq, axloqsiz)
فاش	<i>fa:sh</i>	fosh (oshkora)
فاضل	<i>fa:zil</i>	fozil
فاضله	<i>fa:zila</i>	fozila (olima)
فال	<i>fa:l</i>	fol (fol ochish)
فالين	<i>fa:lbi:n</i>	folbin
فالينى	<i>fa:lbi:ni:</i>	folbinlik
فاليز	<i>fa:li:z</i>	poliz (maydoni)
فانوس	<i>fa:nu:s</i>	fonus
فانه	<i>fa:na</i>	pona
فانى	<i>fa:ni:</i>	foniy (esk. o'tkinchi; omonat)
فانده	<i>fa:yda</i>	foyda
فاتح	<i>fatta:h</i>	fattoh (zabt etuvchi)
فان	<i>fatta:n</i>	fatton (maftunkor ko'zlar)
فتح	<i>fateh</i>	fath (g'alaba)
فتحه	<i>fatha</i>	fatha (harfning ustiga qoyiladigan va qisqa a tovushni bildiradigan belgi)
فتنه	<i>fitna</i>	fitna
فتنه انگيز	<i>fitnaangez</i>	fitnagar, fitnachi

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
فتور	<i>futu:r</i>	futur, putur (zarar, nuqson, ziyon)
فتوئى	<i>fatva:</i>	fatvo (shar'iy hukm)
فتيله	<i>fati:la</i>	fatila, patila (kalava; tola, paxta piligi)
فحاشى	<i>fahha:shi:</i>	fohishalik (behayolik)
فحش	<i>fuhs</i>	fahsh (buzuqlik, uyatsizlik)
فحشيات	<i>fahshiya:t</i>	fahshiyat (axloqsizlik)
فخر	<i>faxr</i>	faxr (g'urur; iftixor)
فخرى	<i>faxri:</i>	faxriy (hurmatli)
فخرىه	<i>faxriya</i>	faxriya (faxriya janrida yozilgan she'r)
فدا	<i>fida:</i>	fido
فداكار	<i>fida:ka:r</i>	fidokor
فداكارانه	<i>fidaka:ra:na</i>	fidokorona
فداكارى	<i>fida: ka:ri:</i>	fidokorlik
فداى	<i>fida:i:</i>	fidoiy
فراست	<i>fira:sat</i>	farosat
فراش	<i>farra:sh</i>	farrosh
فراغ	<i>fara:g'</i>	farog' (bo'sh vaqt)
فراغت	<i>fara:g'at</i>	farog'at (osoyishtalik)
فراق	<i>fi:ra:q</i>	firoq (hijron, ayrilish)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
فراموش	<i>fara:mo'sh</i>	faromush (unutish)
فراموشى	<i>fara:mo'shi:</i>	faromushlik (parishonxotirlik)
فراوان	<i>fara:va:n</i>	farovon
فراوانى	<i>fara:va:ni:</i>	farovonlik (mo'l-ko'lchilik)
فرج	<i>faraj</i>	faraj (yoriq, teshik)
فرح	<i>farah</i>	farah (shodlik)
فرح بخش	<i>farahbaxsh</i>	farahbaxsh (quvonch bag'ishlovchi)
فرح مند	<i>farahmand</i>	farahmand (esk shod, baxtli, quvnoq)
فرد	<i>fard</i>	fard
فردوس	<i>firdaos</i>	firdavs (jannat)
فرزانه	<i>farza:na</i>	farzona (esk. oqil, ziyrak)
فرزند	<i>farzand</i>	farzand
فرزندى	<i>farzandi:</i>	farzandlik (avlod)
فرزین	<i>farzi:n</i>	farzin (shaxmatdagi qirolicha)
فرسنگ، فرسخ (قدیم)	<i>farsang, farsax</i>	farsang, farsax (esk taxminan olti kilometr ga teng uzunlik o'lchovi)
فرش	<i>farsh</i>	farsh (esk. palos, bo'yra)
فرشته	<i>farishta</i>	farishta
فرشته صفت	<i>farishtasifat</i>	farishtali (jozibali)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
فرصت	<i>fursat</i>	fursat (vaqt)
فرض	<i>faraz</i>	faraz (taxmin)
فرض، فریضہ	<i>farz, fariza</i>	farz (burch)
فرضاً	<i>farzan</i>	farazan (taxminan)
فرضی	<i>farzi:</i>	farziy (taxminiy)
فرعون	<i>fira:vn</i>	fir'avn (tar Misr podshohi)
فرق	<i>farq</i>	farq (tafovut)
فرقت	<i>furqat</i>	furqat (hijron, ayriliq)
فرقہ	<i>firqa</i>	firqa (guruh)
فرمان	<i>farma:n</i>	farmon
فرمان بردار	<i>farma:nbarda:r</i>	farmonbardor (itoatkor)
فرمان برداری	<i>farma:nbarda:ri:</i>	farmonbardorlik
فرمائش	<i>farma:ish</i>	farmoyish (buyruq)
فرمودہ	<i>farmu:da</i>	farmuda (aytilgan, buyurilgan gap)
فرنگ	<i>farang</i>	farang (esk. Yevropa)
فرنگی	<i>farangi:</i>	farangi (esk. Yevropa yoki Fransiyaga oid)
فروش	<i>faro'sh</i>	furush (suffiks sotuvchi)
فریاد	<i>farya:d</i>	faryod
فریب	<i>fareb</i>	firib

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
فريب گر، فريبی	<i>farebgar, farebi:</i>	firibgar
فساد	<i>fasa:d</i>	fasod (a. yiring; b. ig'vo, g'iybat)
فسانہ	<i>fasa:na</i>	fasona (afsona)
فسق	<i>fisq</i>	fisq (axloqsizlik; g'iybat)
فسق وفساد	<i>fisqo-fasa:d</i>	fisqu fasod (bo'hton, tuhmat)
فسون، افسون	<i>fusu:N, afsu:n</i>	fusun (joziba, sehr)
فسون گر	<i>fusu:ngar</i>	fusungar (sehrlovchi, maftun etuvchi)
فصحا (جمع)	<i>fusaha:</i>	fusaho (so'z ustalari, gapga chechan kishilar)
فصاحت	<i>fasa:hat</i>	fasohat (nutqning ravonligi)
فصل	<i>fasl</i>	fasl (yil fasli; qism)
فصح	<i>fasi:h</i>	fasih (yaxshi uslub)
فضا (ماحول)	<i>fiza:</i>	fazo (osmon, koinot)
فضل	<i>fazl</i>	fazl (obro', fazilat)
فضلا (جمع)	<i>fuzala:</i>	fuzalo (esk فاضل dan ko'p donishmandlar, ziyolilar)
فضول	<i>fuzu:l</i>	fuzul (ortiqcha, befoyda)
فضيحت	<i>fazi:hat</i>	fazihat (esk odobsizlik; sharmandalik)
فضيلت	<i>fazi:lat</i>	fazilat
فطر	<i>fitr</i>	fitr (a. hayit; b. ro'zadan keyin beriladigan)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
		sadaqa)
فطرت	<i>fitrat</i>	fitrat (tabiat, qudrat)
فطره	<i>fitra</i>	fitra (hayit namozidan oldin beriladigan "fitra")
فطير	<i>fati:r</i>	patir
فعال	<i>faa:l</i>	faol (harakatchan)
فعاليت	<i>faa:li:yat</i>	faoliyat (harakat)
فعل	<i>fel</i>	fe'l (ish, amal; insonning kayfiyati)
فعلاً	<i>felan</i>	fe'lan (xulqiga ko'ra)
فغان	<i>fug'a:n</i>	fig'on
فقرا (جمع)	<i>fuqara:</i>	fuqaro (birlik sonda)
فقط	<i>faqat</i>	faqat
فقه	<i>fiqh</i>	fiqh (islom huquqshunosligi)
فقير	<i>faqi:r</i>	faqir (esk. nochor, kambag'al, gadoy)
فقيرانه	<i>faqi:ra:na</i>	faqirona (kamtarona)
فقيرى	<i>faqi:ri:</i>	faqirlik (qashshoqlik; xokisorlik)
فقيه	<i>faqi:h</i>	faqih (islom huquqshunosi)
فكر	<i>fikr</i>	fikr (xayol)
فكراً	<i>fikran</i>	fikran (xayolan)
فكرت	<i>fikrat</i>	fikrat (fikr yuritish)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
فكرمند	<i>fikrmand</i>	fikrmand (parishon, g'amgin)
فكرى	<i>fikri:</i>	fikriy (ma'no jihatdan)
فگار، افگار	<i>figa:r, afga:r</i>	figor, afgor (xijil, xafa)
فلاح	<i>falla:h</i>	falloh (esk dehqon)
فلاسفى	<i>fila:safi:</i>	faylasuf
فلاكت	<i>fala:kat</i>	falokat (baxtsizlik, ofat)
فلاكت زده	<i>fala:katzada</i>	falokatzada (falokatga chalingan)
فلاكتى	<i>fala:kati:</i>	falokatli (xavfli)
فلاں	<i>fula:N</i>	falon (biror shaxs, narsa to'g'risida)
فلج	<i>falaj</i>	falaj (shol)
فلسفه	<i>falsafa</i>	falsafa
فلسفى	<i>falsafi:</i>	falsafiy
فلق	<i>falaq</i>	a) falaq (teshik, yoriq); b) erta tong
فلک	<i>falak</i>	falak (osmon, ko'k)
فلکيات	<i>falki:ya:t</i>	falakiyot (astronomiya)
فن	<i>fan</i>	fan
فنا	<i>fana:</i>	fano (yo'q bo'lish; o'lish)
فنجان	<i>finja:n</i>	finjon (dastali piyola)
فنون (جمع)	<i>funu:n</i>	funun (ko'p fanlar, ilmlar)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
فنى	<i>fani:</i>	fanniy (fanga oid)
فواره	<i>favva:ra</i>	favvora
فوت	<i>faot</i>	favt (esk vafot)
فوج	<i>fouj, faoj</i>	favj(esk qo'shin)
فوق العاده	<i>faoqul-ada:</i>	favqulodda
فولاد	<i>faola:d</i>	po'lat
فہم	<i>fehm</i>	fahm
فی الجملہ	<i>filjumla</i>	filjumla (xullas; gapning qisqasi)
فی الحال	<i>fi:lha:l</i>	filhol (esk hozir)
فی الحقیقت	<i>fi:lhaqi:qat</i>	filhaqiqat (haqiqatan)
فیروزہ	<i>fi:ro'za</i>	feruza (qimmatbaho tosh)
فیض	<i>feyz</i>	fayz (saxovat)
فیض بخش	<i>feyzbaxsh</i>	fayzbaxsh (saxovatli, fayzli)
فیض تراوت	<i>feyz-tara:vat</i>	fayz-tarovat (ko'rkamlik, husn)
فیض حلاوت	<i>feyz-hala:vat</i>	fayz-halovat (osoyishtalik)
فیض فتور	<i>feyz-futur</i>	fayz-futur (huzur- halovat)
فیضی	<i>feyzi:</i>	fayzli (jozibador)
فیض یاب	<i>fezya:b</i>	fayziyob (maftunkor)
فیل	<i>fi:l</i>	fil

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
فيلبان	<i>fi:lba:n</i>	filbon
فيلسوف	<i>feylasu:f</i>	faylasuf

☆☆☆

ق (qāf)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
قابل	<i>qa: bil</i>	qobil (qobil-mo'min)
قابليت	<i>qa: bili: yat</i>	qobiliyat (layoqat)
قاتل	<i>qa: til</i>	qotil
قاچاق	<i>qa: cha: q</i>	qochoq (qochqin)
قاچاقى	<i>qa: cha: qi:</i>	qochqinlik
قادر	<i>qa: dir</i>	qodir
قارى (پڑھنے والا)	<i>qa: ri:</i>	qori (Qur'onni qiroat bilan o'qiydigan shaxs)
قاز (آبى پرندہ)	<i>qa: z</i>	g'oz
قاش (بمعنى ابرو)	<i>qa: sh</i>	qosh
قاشوق، قاشق، قشچ	<i>qa: shu: q, qa: shiq</i>	qoshiq
قاصد	<i>qa: sid</i>	qosid (esk. chopar, xabar beruvchi)
قاصر	<i>qa: sir</i>	qosir (esk. majbur, ojiz)
قاضى	<i>qa: zi:</i>	qozi
قاعدہ	<i>qa: ida</i>	qoida
قاف (حرف)	<i>qa: f</i>	qof (harfning nomi)
قافلہ	<i>qa: fila</i>	qofila (karvon)
قافلہ باشى	<i>qa: filaba: shi:</i>	qofila (karvon) boshi

اُردو	تلفظ	اُزبیک
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
قافیہ	<i>qa:fia</i>	qofiya
قاق (بمعنی خشک)	<i>qa:q</i>	qoq (juda qurigan)
قالین	<i>qa:li:n</i>	qalin (yo'g'on)
قامت	<i>qa:mat</i>	qomat
قاموس (لغت)	<i>qa:mu:s</i>	qomus
قانون	<i>qa:nu:n</i>	qonun
قانوناً	<i>qa:nu:nan</i>	qonunan (qonunga ko'ra)
قانونچہ (ابن سینا کی طب سے متعلق ایک کتاب)	<i>qa:nu:ncha</i>	qonuncha (muxtasar qonun)
قانونی	<i>qa:nu:ni:</i>	qonuniy
قانونیت	<i>qa:nu:ni:yat</i>	qonuniyat
قائل	<i>qa:il</i>	qoyil (ofarin)
قائم مقام	<i>qa:im maqa:m</i>	qoyim-maqom (esk.o'rinbosar)
قبا	<i>qaba:</i>	qabo (chakmon)
قباحت (خرابی)	<i>qaba:hat</i>	qabohat (razillik)
قبر	<i>qabr</i>	qabr
قبرستان	<i>qabrista:n</i>	qabriston
قبض، قبضیت	<i>qabz, qabzi:yat</i>	qabziyat (ich qotishi)
قبضہ	<i>qabza</i>	qabza (dasta)
قبن (کھیل)	<i>qabaq</i>	qovoq (ichi bo'sh)

اُردو	تلفظ	اُزبیک
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
قبلہ	<i>qibla</i>	qibla
قبلہ گاہ	<i>qiblagah</i>	qiblagoh (ota)
قبور	<i>qubu:r</i>	qubur (qabrlar)
قبہ (گنبد)	<i>qubba</i>	qubba (gumbaz)
قبول	<i>qabu:l</i>	qabul
قتیح	<i>qabi:h</i>	qabih (yaramas, yomon)
قبیل (نوع)	<i>qabi:l</i>	qabil (tur, nav)
قبیلہ	<i>qabi:la</i>	qabila
قتال	<i>qatta:l</i>	qattol
قتل	<i>qatl</i>	qatl
قتل عام	<i>qatle a:m</i>	qatli om
قتل گاہ	<i>qatlga:h</i>	qatlgoh
قتلمہ (ایک قسم کی روٹی)	<i>qatlama, qatalma</i>	qatlama
قتلہ (بمعنی بار)	<i>qatla</i>	qatla (karra)
قتی (چھوٹا ڈبہ)	<i>qati:, qutti:</i>	quti, quticha
قپتار (مینڈھا)	<i>qo'chqa:r</i>	qo'chqor
قحط	<i>qehet</i>	qahat
قد	<i>qad</i>	qad
قدرح	<i>qadah</i>	qadah
قدر	<i>qadar</i>	qadar

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
قدر	<i>qadr</i>	qadr
قدرت	<i>qudrat</i>	qudrat
قدردان	<i>qadrda:n</i>	qadrdon
قدردانی	<i>qadrda:ni:</i>	qadrdonlik
قدر و قیمت	<i>qadro' qi:mat</i>	qadru qiymat
قدریت	<i>qadri:yat</i>	qadriyat
قدغن	<i>qadg'an</i>	qatag'on
قدم	<i>qadam</i>	qadam
قدم بقدم	<i>qadam-baqadam</i>	qadamba-qadam
قدم رنج	<i>qadamranja</i>	qadam ranjida
قدمچ	<i>qadamcha</i>	qadamcha (esk.)hojatxona
قد و قامت	<i>qado' qa:mat</i>	qaddi-qomat
قدیم	<i>qadi:m</i>	qadim
قدیمی	<i>qadi:mi:</i>	qadimiy
قر	<i>qur</i>	qur (esk.daf'a)
قرأت	<i>qira:at</i>	qiroat
قربت	<i>qara:bat</i>	qarobat (yaqinlik)
قرار (آرام)	<i>qara:r</i>	qaror (farmon)
قرار گاه	<i>qara:rga:h</i>	(maskan) qarorgoh
قراوش (ایک شکاری پرندہ)	<i>qara:qush</i>	qoraqush (cho'l burguti)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
قِران	<i>qira:n</i>	qiron (katta sayyoralarning birikishi)
قِرآن	<i>qura:n</i>	Qur'on
قِراول	<i>qara:val</i>	qorovul
قِرَب	<i>qurb</i>	qurb (yaqinlik; qurb)
قِربان	<i>qurba:n</i>	qurbon
قِربانى	<i>qurba:ni:</i>	qurbonlik (qilish)
قِرَبَت	<i>qurbat</i>	qurbat (yaqinlik)
قِرَض	<i>qarz</i>	qarz
قِرَض دار	<i>qarzda:r</i>	qarzdor
قِرَع	<i>qura</i>	qur'a
قِرْمَز، قِرْمِزى	<i>qirmiz, qirmizi:</i>	qirmizi (qizil)
قِرْمِساَق	<i>qurmsa:q</i>	qurumsoq (ziqna)
قِرْوَت (خَشْك دېھى)	<i>quru:t</i>	qurt, qurut
قِرْوَلْتائى (جِلْسە)	<i>qurulta:y</i>	qurultoy
قِرِيب	<i>qari:b</i>	qariyb (yaqin)
قِرِيباً	<i>qari:ban</i>	qariban (taxminan)
قِرِزاَق	<i>qazza:q</i>	qozoq
قِرِزاَقى	<i>qazza:qi:(ta:la:n-ta:ra:ji:)</i>	qozoqiy (qozoqcha)
قِرِزىل	<i>qizil</i>	qizil
قِرِزىل باش (تار)	<i>qizilba:sh</i>	qizilbosh (esk. bir toifa)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
		jangarilar nomi)
قسم	<i>qasam</i>	qasam
قِسْم	<i>qism</i>	qism (tur, nav)
قسمت	<i>qismat</i>	qismat
قشون (تار فوج)	<i>qushu:n</i>	qo'shin
قصاب	<i>qassa:b</i>	qassob
قصاص	<i>qasa:s</i>	qasos
قصد (نیت، مقصد)	<i>qasd</i>	qasd
قصداً	<i>qasdan</i>	qasddan
قصر	<i>qasr</i>	qasr (koshona)
قصور	<i>qusu:r</i>	qusur (nuqson)
قصه	<i>qissa</i>	qissa
قصه خوال	<i>qissaxa:N</i>	qissaxon
قصه خوانی	<i>qissaxa:ni:</i>	qissaxonlik
قصه نویس	<i>qissanavi:s</i>	qissanavis
قصیده	<i>qasi:da</i>	qasida
قضا (وفات)	<i>qaza:</i>	qazo
قطار	<i>qata:r</i>	qator
قطب	<i>qutb</i>	qutb
قطبی	<i>qutbi:</i>	qutbiy

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
قطره	<i>qatra</i>	qatra
قطع	<i>qata</i>	qat (qirqish)
قطع نظر	<i>qatte nazar</i>	qat'i-nazar
قطعاً	<i>qatan</i>	qat'an (qat'iyān)
قطعی	<i>qatai:</i>	qat'iy
قطیعت	<i>qati:at</i>	qat'iyat
قعر	<i>qa:r</i>	qa'r (chuqurlik)
قفص	<i>qafas</i>	qafas
قفص	<i>qul</i>	qulf
ققنس	<i>qaqnus</i>	qaqnus
قلاّب	<i>qalla:b</i>	qallob (firibgar)
قلاّبى	<i>qalla:bi:</i>	qalloblik
قلاّح چين (تار)	<i>qula:hchi:n</i>	quloqchin
قلب	<i>qalb</i>	qalb
قلباً	<i>qalban</i>	qalban (chin yurakdan)
قلپاق (ایک اُوچى ئوپى)	<i>qalpa:q</i>	qalpoq
قلعه	<i>qila</i>	qal'a
قلعی	<i>qalai:</i>	qalay (qo'rg'oshin)
قل، قلى	<i>qul, quli:</i>	qul (g'ulom)
قلم	<i>qalam</i>	qalam (پېنسل)

اُردو	تلفظ	اُزبیک
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
قلمناق	<i>qalma:q</i>	qalmoq (millat va uning tili)
قلم تراش	<i>qalamtara:sh</i>	qalamtarosh
قلم دان	<i>qalamda:n</i>	qalamdon (penal)
قلم کش	<i>qalamkash</i>	qalamkash (adib)
قلم کار	<i>qalamka:r</i>	qalamkor
قلمچہ (پونڈی کے لیے چھوٹی ہری ٹہنی)	<i>qalamcha</i>	qalamcha
قلمرو	<i>qalamrao</i>	qalamrav (esk. mamlakat va uning hududi)
قلمی ^۱	<i>qalmi:y</i>	qalami (qo'lda yozilgan)
قلمی ^۲	<i>qalmi:y</i>	qalamiy (payvand qilingan)
قلمندر	<i>qalandar</i>	qalandar
قلوب (جمع)	<i>qulu:b</i>	qulub (ko'p. qalblar)
قلی	<i>quli:</i>	qul (g'ulom)
قلیان	<i>qalya:n</i>	kalyon (chilim)
قلیہ	<i>qali:ya</i>	qayla
قمار، قماری	<i>qima:r, qima:ri:</i>	qimor
قمار باز	<i>qima:rba:z</i>	qimorboz
قمار بازی	<i>qima:rba:zi:</i>	qimorbozlik
قمارخانہ	<i>qima:rxa:na</i>	qimorxona

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
قماش	<i>quma:sh</i>	qumosh (mato, gazlama)
قچى (بمعنى چابک)	<i>qamchi:</i>	qamchi
قمر	<i>qamar</i>	qamar (oy)
قمرى	<i>qamari:</i>	qamariy (yil)
قمرى	<i>qumri:</i>	qumri (sayroqi qush turi)
قمریہ	<i>qamariya</i>	qamar oyiga tegishli (mas qamariy taqvim)
قنات	<i>qana:t</i>	qanot, chodir (mato bilan to'silgan joy)
قناعت	<i>qana:at</i>	qanoat, sabr
قند	<i>qand</i>	qand
قندیل	<i>qandi:l</i>	qandil
قوام	<i>qiva:m</i>	qiyom
قوت	<i>quvvat</i>	quvvat
قوت	<i>qu:t</i>	qut (baraka; boylik)
قوت لایموت	<i>qut - la:yamu:t</i>	qut loyomut (yashash uchun zarur bo'lgan rizq-ro'z)
قور	<i>qo'r</i>	a) qo'r, zaxira; b) qurol-aslaha
قورباشى (تار)	<i>qo'rba:shi:</i>	(esk.) qo'rboshi (mahalliy qo'shinning boshlig'i)
قورخانه (تار)	<i>qo'rxana:na:</i>	qo'rxona (aslahaxona)
قورما، قورمه	<i>qo'rma:</i>	qovurma

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
قوس	<i>qaos</i>	qavs
قوش (شكاري پرندہ)	<i>qu:sh</i>	qush
قوش بېگي (تار)	<i>qu:shbegi:</i>	qushbegi (tar.amir saroyida yirik amaldor)
قوم	<i>qaom</i>	qavm
قہار	<i>qahha:r</i>	Alloh
قہر	<i>qehr</i>	qahr, g'azab
قہرمان	<i>qehrma:n</i>	qahramon
قہقہہ	<i>qehqaha</i>	qahqaha
قہوہ	<i>qehva</i>	qahva
قہوہ خانہ	<i>qehvaxa:na</i>	qahvaxona
قے	<i>qey</i>	qayt, qusish
قیاس	<i>qaya:s</i>	qiyos
قیاساً	<i>qaya:san</i>	qiyosan
قیاسی	<i>qaya:si:</i>	qiyosiy
قیافہ	<i>qiya:fa</i>	qiyofa
قیام	<i>qaya:m</i>	qiyom (tik turish)
قیامت	<i>qaya:mat</i>	qiyomat
قید	<i>qeyd</i>	qayd (زوردینا؛ تحریر؛ (فہرست)
قیصر (تاربادشاہ)	<i>qeysar</i>	qaysar (o'jar)
قیلہ	<i>qi:la</i>	qayla

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
قيماغ (تار)	<i>qiyma:g'</i>	qaymoq
قيمت	<i>qi:mat</i>	qiymat (baho, narx)
قيمتى	<i>qi:mti:</i>	qimmatli
قيمه	<i>qi:ma</i>	qiyma
قيچى، قينچى	<i>qeynchi:, qeychi:</i>	qaychi

ک (kāf)

اُردو	تلفظ	اُزبیک
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
کاتب	<i>ka:tib</i>	kotib
کار	<i>ka:r</i>	kor (ish)
کارخانہ	<i>ka:rxa:na</i>	korxona
کارساز	<i>ka:rsa:z</i>	korsoz (yordamchi)
کارگاہ	<i>ka:rga:h</i>	korgoh (esk. ustaxona)
کارندہ	<i>ka:rinda</i>	koranda (esk. ishchi)
کارواں	<i>ka:rva:N</i>	karvon
کارواں باشی	<i>karva:Nba:shi:</i>	karvonboshi
کارواں سرائے	<i>ka:rva:Nsara:y</i>	karvonsaroy
کاسا ، کاسہ	<i>ka:sa:, ka:sa</i>	kosa (piyola)
کاسب	<i>ka:sib</i>	kosib (hunarmand)
کاش، کاش کہ	<i>ka:sh, ka:shke</i>	koshki
کاشانہ	<i>ka:sha:na</i>	koshona
کانڈ	<i>ka:g'az</i>	qog'oz
کانڈ فروش	<i>ka:g'azfaro'sh</i>	qog'ozfurush
کافر	<i>ka:fir</i>	kofir
کانی	<i>ka:fi:</i>	kofi (esk. yetarli)
کاکل	<i>ka:kul</i>	kokil (bir tutam soch)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
كالا (كله) پاچا	<i>ka:la:-pa:cha:</i>	kalla-pocha
كامران	<i>ka:mra:n</i>	komron (baxtli)
كامل	<i>ka:mil</i>	komil (yetuk)
كان	<i>ka:n</i>	kon
كاواك	<i>ka:va:k</i>	kavak (bo'shliq)
كاھن	<i>ka:hin</i>	kohin (romchi, folbin)
كانات	<i>ka:ina:t</i>	koinot
كباب	<i>kaba:b</i>	kabob
كبار	<i>kiba:r</i>	kibor (esk. ulug' shaxslar)
كبر	<i>kibr</i>	kibr (mag'rurlik)
كبوتر	<i>kabu:tar</i>	kabutar, kaptar
كبوتر باز	<i>kabu:tarba:z</i>	kaptarboz
كبیر	<i>kabi:r</i>	kabir (buyuk)
كبیسہ	<i>kabi:sa</i>	kabisa (to'rt yilda bir keladigan yil)
كتاب	<i>kita:b</i>	kitob
كتابت	<i>kita:bat</i>	kitobat (ko`chirib yozish)
كتاب چہ	<i>kita:bcha</i>	kitobcha
كتاب خانہ	<i>kita:bxana</i>	kitobxona (kutubxona)
كتاب خوانی	<i>kita:bxani:</i>	kitobxonlik

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
کتاب فروش	<i>kita:bfaro'sh</i>	kitobfurush (esk kitob sotuvchi)
کتابی	<i>kita:bi:</i>	kitobiy (kitobga oid)
کثافت	<i>kasa:fat</i>	kasofat (yomonlik, g'alizlik)
کج	<i>kaj</i>	kaj (teskari, egri)
کجاوه	<i>kaja:va</i>	kajava (tuya yoki fil ustida o'tirish uchun mo'ljallangan o'rindiqlik)
کج رفتار	<i>kajrafta:r</i>	kajraftor (makkor)
کدو	<i>kadu:</i>	kadu (oshqovoq)
کدورت	<i>kudu:rat</i>	kudurat
کده	<i>kada</i>	kada (joy, makon)
کذاب	<i>kazza:b</i>	kazzob (yolg'onchi)
کر (بمعنی گونگا)	<i>kar</i>	kar (qulog'i garang)
کرامت	<i>kara:mat</i>	karomat
کرایه	<i>kira:ya</i>	kira (mas.yo'l haqi)
کریچ، قلیچ	<i>kirich, qilich</i>	qilich (esk qilich)
کردار	<i>kirda:r</i>	kirdor (esk. hattiharakat)
کرسی	<i>kursi:</i>	kursi
کرشمه	<i>karishma</i>	karashma (nozu ado)
کرم	<i>karam</i>	karam (iltifot)
کرم	<i>karam</i>	karam (sabzavot)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
كرنائى، كرنا	<i>karna:i:, karna:</i>	karnay
كره ، كره ارض	<i>kurra, kurraye arz</i>	zamin (Yer kurrasi)
كرك، كركى	<i>kuRk, kuRki:</i>	kurk (tovuqning kurk bo'lishi)
كس	<i>kas</i>	kas (kishi; kimdir)
كساد	<i>kasa:d</i>	kasod (inqiroz)
كسب	<i>kasb</i>	kasb (hunar)
كسر (علم حساب كى اصطلاح)	<i>kasr</i>	kasr
كسره	<i>kasra</i>	kasra (qisqa "i"tovushini bildiradigan chiziqcha)
كسل (بمعتى ست)	<i>kasal</i>	kasal (bemor)
كسل مند	<i>kasalmand</i>	kasalmand
كشاده	<i>kusha:da</i>	kushoda (ochiq, keng)
كشف	<i>kashf</i>	kashf (kashf)
كشفيات	<i>kashfiya:t</i>	kashfiyot
كشكول	<i>kashko'l</i>	Kashkul (esk. Darveshning sadaqa idishi)
كشمش (خشك انگور)	<i>kishmish</i>	kishmish
كشده	<i>kashanda</i>	kashanda (chekuvchi)
كشيز (دھنيا)	<i>kashni:z</i>	kashnich
كشور	<i>kishvar</i>	kishvar (esk.mamlakat)
كشيدہ كارى	<i>kashi:daka:ri:</i>	kashtachilik

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
كف	<i>kaf</i>	kaft
كفالت	<i>kafa:lat</i>	kafolat
كفالت نامه	<i>kafa:latna:ma</i>	kafolatnoma
كفايت، كفايه	<i>kifa:yat, kifa:ya</i>	kifoya
كفر	<i>kufr</i>	kufr (noshar'iy harakat)
كفش	<i>kafsh</i>	kavush, kafsh
كفگیر	<i>kafgi:r</i>	kapgir, kafgir
كفن	<i>kafan</i>	kafan
كفیل	<i>kafi:l</i>	kafil
كلا، كله	<i>kalla:, kalla</i>	kalla (bosh)
كوال	<i>kula:l</i>	kulol
كلام	<i>kala:m</i>	kalom
كلام الله	<i>kala:mulla</i>	kalomullo (Allohning so'zi)
كلاں	<i>kala:N</i>	kalon (katta, buyuk)
كلبه	<i>kulba</i>	kulba
كلپاك، قلیپاق	<i>kalpa:k, qalpa:q</i>	qalpoq (bosh kiyim)
كلچھ	<i>kulcha</i>	kulcha
كلفت	<i>kulfat</i>	kulfat
كلمه شهادت	<i>kalma-e shaha:dat</i>	kalimai shahodat
كله، كلاه	<i>kulah, kula:h</i>	kuloh (bosh kiyim)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
كليات	<i>kulliya:t</i>	kulliyot (she`riy to`plam)
كلید	<i>kali:d</i>	kalit
كم	<i>kam</i>	kam
كماج، كماج	<i>kuma:j, kuma:ch</i>	ko`mach (nonning bir turi)
كمال	<i>kama:l</i>	kamol (yetuklik)
كمالت	<i>kama:lat</i>	kamolot
كمان	<i>kama:n</i>	kamon (yoy)
كمان كاش	<i>kama:nkash</i>	kamonkash (esk. kamondan o`q otuvchi)
كمانچى	<i>kama:nchi:</i>	kamonchi (g`ijjakchi; kamon otuvchi)
كم بخت	<i>kambaxt</i>	kambaxt
كم تر	<i>kamtar</i>	kamtar (xoksor, kamsuqum)
كم ترين	<i>kamtari:n</i>	kamtarin
كم خرچ	<i>kamxarch</i>	kamxarj (xarajati kam bo`lgan)
كم خواب	<i>kimxa:b</i>	kimxob (ipakdan to`qilgan mayin mato)
كمر	<i>kamar</i>	kamar (bel)
كمر بسته	<i>kamarbasta</i>	kamarbasta (hamon shay bo`lgan, tayyor)
كم سخن	<i>kamsuxan</i>	kamsuxan (kamgap)
كم قوت	<i>kamquvvat</i>	kamquvvat (nimjon)
كمك	<i>kumak</i>	ko`mak

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
كم و كاست	<i>kam-o' ka:st</i>	kamu ko'st
كم ياب	<i>kamya:b</i>	kamyob (juda kam, nodir)
كمينه (كم ذات)	<i>kami:na</i>	kamina, kamtarlik, xoksorlik (o'z to'g'risida)
كناره	<i>kina:ra</i>	kanora (esk.qirg'oq)
كنايا، كنايه	<i>kina:ya:,kina:ya</i>	kinoya
كنايه	<i>kina:ya:tan</i>	kinoya bilan
كنجد	<i>kunjad</i>	kunjut
كنده	<i>kanda</i>	kanda
كنده كار	<i>kandaka:r</i>	kandakor (naqshkor)
كنده كاري	<i>kandaka:ri:</i>	kandakorlik (o'yamakorlik)
كنيز	<i>kani:z</i>	kaniz (cho'ri,oqsoch)
كوتاه	<i>ko'ta:h</i>	ko'toh (kalta, qisqa)
كوثر	<i>kaosar</i>	kavsar (jannatdagi daryo)
كوچ	<i>ku:ch</i>	ko'ch (esk. jo'nab ketish)
كوچك	<i>ku:chak</i>	kichik, tor
كوچه	<i>ku:cha</i>	ko'cha
كودك	<i>kaodak</i>	go'dak (chaqaloq)
كور (اندها)	<i>ko'r</i>	ko'zi ko'r, so'qir
كور نمك	<i>ko'rnamak</i>	ko'rnamak (nonko'r)
كوزه، كوزا	<i>ku:za, ku:za:</i>	ko'za
كوزه گر	<i>ku:zagar</i>	ko'zagar (kulol)
كوسه	<i>ku:sa</i>	ko'sa (siyrak soqol)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
كوش	<i>kavsh</i>	kavush
كوشش	<i>ko 'shish</i>	ko 'shish (harakat, urinish)
كوكب	<i>kaokab</i>	kavkab (esk. yulduz)
كوكنار	<i>ko 'kna:r</i>	ko 'knor
كول (تالاب)	<i>ko 'l</i>	ko 'l (hovuz; chashma)
كوه قاف	<i>ko 'he Qa:f</i>	ko 'hi Qof (bir afsonaviy tog')
كھانڈ	<i>kha:nd</i>	qand, shakar
كھچڑی	<i>khichRi:</i>	kichiri (moshli ovqat)
كھربا	<i>kehruba:</i>	kahrabo (qimmatbaho tosh, yantar)
كھكشاں	<i>kehka:sha:n</i>	kahkashon (Somon yo 'li)
كهنہ	<i>ko 'hna</i>	ko 'hna (eskirgan)
كيسہ (بمعنى جيب)	<i>ki:sa</i>	kissa (cho 'ntak)
كيف	<i>keyf</i>	kayf (huzur)
كيفيت	<i>keyfi:at</i>	kayfiyat
كیلاس، گیللاس	<i>ki:la:s</i>	gilos (meva)
كیمیا	<i>ki:mya:</i>	kimyo
كیمیاگر	<i>ki:mya:gar</i>	kimyogar
كیمیاگری	<i>ki:mya:gari:</i>	kimyogarlik
كیمیاوی، کیمیائی	<i>ki:mya:vi:., ki:mi:ya:i:</i>	kimyoviy
كینہ، كینا	<i>ki:na, ki:na:</i>	gina

گ (gāf)

اُردو	تلفظ	اُزبیک
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
گنہگار	<i>gunehga:r</i>	gunohkor
گنگ، گونگا	<i>gung, gu:nga:</i>	gung (soqov)
گاہ	<i>ga:h</i>	goh (joy ma'nosini ifodalaydi)
گاہے گاہے	<i>ga:he - ga:he</i>	goho-goho
گپ	<i>gap</i>	gap
گپ بازی	<i>gapba:zi:</i>	gapbozlik (safsata)
گدا	<i>gada:</i>	gado, gadoy
گدائی	<i>gada:i:</i>	gadoylik (tilanchilik)
گذر	<i>guzar</i>	guzar (دوکانیں چائے خانے، بیں بوتے وغیرہ)
گر (اگر)	<i>gar</i>	gar (agar)
گر جستان	<i>gurjista:n</i>	Gurjiston (esk. Gruziya)
گر جی	<i>gurji:</i>	gurji (esk. gruzin)
گرد	<i>gard</i>	gard (chang)
گرد	<i>gird</i>	gird (atrof)
گرداب	<i>girda:b</i>	girdob
گردش	<i>gardish</i>	gardish (aylanish)
گردش دوران	<i>gardishe daora:n</i>	gardishi davron (taqdir)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
گردن	<i>gardan</i>	gardan (bo'yin)
گردون	<i>gardu:n</i>	gardun (osmon, falak)
گرز	<i>gurz</i>	gurzi (esk. harbiy qurol)
گرفتار	<i>girifta:r</i>	giriftor (duchor bo'lish)
گرما	<i>garma</i>	garma (xandalak)
گره	<i>girah</i>	girih (tugun)
گروه	<i>giroh</i>	guruh
گریاں	<i>giryɑ:N</i>	giryon (yig'layotgan)
گریباں	<i>giri:ba:N</i>	giribon (yoqa)
گریہ	<i>giryɑ</i>	giryɑ (ko'z yoshi)
گز	<i>gaz</i>	gaz (uzunlik o'lchov birligi)
گزرگاہ	<i>guzarga:h</i>	guzargoh
گزک، گزگ	<i>gazak, gazaq</i>	gazak
گزنده	<i>gazanda</i>	gazanda (yaramas, qabih, yovuz)
گستاخ	<i>gusta:x</i>	gustox (beadab)
گستاخی	<i>gusta:xi:</i>	gustoxlik (odobsizlik)
گشت	<i>gasht</i>	gasht (zavq)
گفتگو	<i>guftgu:</i>	guftugu (suhbat)
گیل	<i>gil</i>	gil (loy, balchiq)
گل	<i>gul</i>	gul

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
گُلِ زِگس	<i>gule nargis</i>	gulinargiz
گُلِ اندام	<i>gulanda:m</i>	gulandom
گُلِ بدن	<i>gulbadan</i>	gulbadan
گُلِ بَرگ	<i>gulbarg</i>	gulbarg
گُلِ تاج	<i>gulta:j</i>	gultoj
گُلِ دار	<i>gulda:r</i>	guldor (gul solingan)
گُلِ دسته	<i>guldasta</i>	guldasta
گُلِ لاله	<i>gule la:la</i>	gulilola
گلاب	<i>gula:b</i>	gulob (atirgul)
گلاب	<i>gula:b</i>	gulob (atirgul bargidan olinadigan)
گلابي	<i>gula:bi:</i>	gulobi (pushtirang)
گلتاجِ خروس	<i>gulta:je xuru:s</i>	gultojixo'roz
گلخن چولها	<i>gulxan</i>	gulxan (olov, alanga)
گلدان	<i>gulda:r</i>	guldor
گلدان	<i>gulda:n</i>	guldon
گلزار	<i>gulza:r</i>	gulzor
گلستان	<i>gulista:n</i>	guliston
گلشن	<i>gulshan</i>	gulshan
گلكار	<i>gilka:r</i>	gilkor (esk. suvoqchi, ganchkor)
گلكار	<i>gulka:r</i>	gulkor, naqsh-gul

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
		o'yuvchi usta
گلنار	<i>gulna:r</i>	gulnor (anor guli)
گله	<i>gala</i>	gala (poda)
گله	<i>gila</i>	gina (gina-kudurat)
گلیم	<i>gali:m</i>	gilam
گم	<i>gum</i>	gum bo'lgan (yo'qolgan)
گماشته	<i>guma:shta</i>	gumashta (tar. xizmatkor; ishonchli vakil)
گمان	<i>guma:n</i>	gumon
گمراه	<i>gumra:h</i>	gumroh (adashgan)
گمراهی	<i>gumra:hi:</i>	gumrohlik (adashganlik)
گناه	<i>guna:h</i>	gunoh
گنبد، گنبد	<i>gumbad</i>	gumbaz
گنج	<i>ganj</i>	ganj, ganjina (xazina)
گنده	<i>ganda</i>	ganda (badbo'y, iflos)
گناهگاری	<i>gunehga:ri</i>	gunohkorlik
گو، گاؤ	<i>go, gao</i>	gov (esk. sigir; ho'kiz)
گواه	<i>gava:h</i>	guvoh
گواهی	<i>gava:hi:</i>	guvohlik
گور	<i>go'r</i>	go'r (qabr)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
گورستان	<i>go 'rista:n</i>	go'riston
گوش (كان)	<i>go 'sh</i>	go'sh (esk. quloq)
گوشت	<i>gosht</i>	go'sht
گوشت خور	<i>go 'shtxo 'r</i>	go'shtxo'r
گوشه	<i>gosha</i>	go'sha (burchak)
گوشه نشین	<i>goshanishi:n</i>	nishin (tanholikni xohlovchi)/
گوشه نشینی	<i>goshanishi:ni:</i>	go'shanishinlik, tanholik (hech kimga qo'shilmaslik)
گول	<i>gol</i>	go'l
گوناه گون	<i>gu:na-guN</i>	gunogun (xilma xil)
گوهر	<i>gohar</i>	gavhar
گویا	<i>goya:</i>	go'yo
گیاه	<i>giya:h</i>	giyoh (o't)
گیلاس	<i>gi:la:s</i>	gilos

ل (lām)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
لاجورد	<i>la:jvard</i>	lojuvard
لاچين	<i>la:chi:N</i>	lochin
لازم	<i>la:zim</i>	lozim
لاغر	<i>la:g'ir</i>	log'ar (ozg'in)
لاش	<i>la:sh</i>	losh (esk.murda)
لاف	<i>la:f</i>	lof
لاکھ	<i>la:kh</i>	lak (esk. yuz ming)
لالہ	<i>la:la</i>	lola (gul)
لامکان	<i>la:maka:n</i>	lomakon (Alloh)
لائق	<i>la:iq</i>	loyiq
لايموت	<i>la:yamu:t</i>	loyamut (esk.o'lmaydigan)
لب	<i>lab</i>	lab
لباس	<i>liba:s</i>	libos
لبالب	<i>laba:lab</i>	labolab (limmo-lim)
لبیک	<i>labeyk</i>	labbay
لت	<i>lat</i>	lat (tarsaki, shapaloq)
لتا	<i>lata:</i>	latta

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
لحد	<i>lehed</i>	lahad
لحظه	<i>lehza</i>	lahza
لحم	<i>lehm</i>	lahm
لخته	<i>laxta</i>	laxta (quyilib qolgan qon)
لذت	<i>lazzat</i>	lazzat
لذیذ	<i>lazi:z</i>	laziz
لرزاں	<i>larza:N</i>	larzon (titrash)
لرزه	<i>larza</i>	larza
لسان	<i>lisa:n</i>	lison (esk.til, zabon)
لسانی	<i>lisa:ni:</i>	lisoniy
لشکر	<i>lashkar</i>	lashkar
لشکر گاہ	<i>lashkarga:h</i>	lashkargoh (esk.harbiy qarorgoh)
لطافت	<i>lata:fat</i>	latofat
لطف	<i>lutf</i>	lutf
لطفاً	<i>lutfan</i>	lutfan (iltifot ila)
لطیف	<i>lati:f</i>	latif
لطیفہ	<i>lati:fa</i>	latifa
لعل	<i>la:l</i>	la'l (yoqut tosh)
لعنت	<i>la:nat</i>	la'nat
لعنتی	<i>la:nati:</i>	la'nati

اُردو	تلفظ	اُزبیک
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
لعین	<i>lai:n</i>	la'in (la'nati)
لغت	<i>lug'at</i>	lug'at
لغت شناس	<i>lug'atshuna:s</i>	lug'atshunos
لغوی	<i>lug'vi:</i>	lug'aviy
لفظ	<i>lafz</i>	lafz
لفظاً	<i>lafzan</i>	lafzan (so'zma-so'z)
لقب	<i>laqab</i>	laqab
لقلق، لک لک	<i>laqlaq [laklak]</i>	laylak
لقمه	<i>luqma</i>	luqma
لکات	<i>laka:t</i>	lakot (esk. yaroqsiz)
لگن	<i>lagan</i>	lagan
لنج	<i>lunj</i>	lunj (lab, og'iz)
لنگ	<i>lang</i>	lang (cho'loq)
لنگر	<i>langar</i>	langar (temir changak)
لنگی	<i>lungi:</i>	lungi
لوازم (ضروری چیزیں)	<i>lava:zim</i>	lavozim (مرتبہ، عہدہ)
لوبیا	<i>lobiya:</i>	loviya
لوح	<i>laoh</i>	lavh (yozuv taxtasi)
لوند	<i>lavand</i>	lavand (dangasa)
لہجہ	<i>lehja</i>	lahja

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
لياقت	<i>laya:qat</i>	layoqat
ليكن	<i>le:kin [likan]</i>	lekin
ليم	<i>li:m</i>	limmo-lim
ليمو	<i>li:mu:</i>	limu, limon

☆☆☆

م (mīm)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
ماين	<i>ma:beyn</i>	mobayn (oraliq, o'rtasi)
ماتم	<i>ma:tam</i>	motam
ماتم سرا	<i>ma:tamsara:</i>	motamsaro (motamli)
ماجرا	<i>ma:jira</i>	mojaro (to'polon, janjal)
ماڏه	<i>ma:dda</i>	modda (narsa)
ماده	<i>ma:da</i>	moda (urg'ochi)
مادی	<i>ma:ddi:</i>	moddiy
مار	<i>ma:r</i>	mo'r (esk. ilon)
ماش	<i>ma:sh</i>	mosh
ماشاء اللہ	<i>ma:shalla</i>	ma'shalloh (zo'r, barakalla)
ماضی	<i>ma:zi:</i>	moziy (o'tmish, o'tgan)
ماکیان	<i>ma:kiya:n</i>	makiyon (tovuq)
مال	<i>ma:l</i>	mol (buyum; chorva)
مال خانہ	<i>ma:lxana</i>	molxona (omborxona)
مال دار	<i>ma:lدار</i>	moldor (boy; chorvasi bor)
مالیات	<i>ma:liyat</i>	moliyat (esk. soliq, pul mablag'i)
مانع	<i>ma:na:</i>	mone' (to'siq, g'ov)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
مانند	<i>ma:nand</i>	monand (o'xshash)
ماه	<i>ma:h</i>	moh (oy)
ماهانه	<i>ma:ha:na</i>	mohiyona, moyona
ماهتاب، مهتاب	<i>ma:hata:b, mehta:b</i>	mohtob (oy)
ماهر	<i>ma:hir</i>	mohir
ماهرانه	<i>ma:hira:na</i>	mohirlik bilan
مائل	<i>ma:il</i>	moyil
ماهیت	<i>ma:hi:yat</i>	mohiyat (mazmun; mag'iz)
مايه، مايا	<i>ma:ya, ma:ya:</i>	moya (manba, o'zak)
مايوس	<i>ma:yu:s</i>	ma'yus (ruhi tushgan)
مايوسى	<i>ma:yu:si:</i>	ma'yuslik (ma'yus holat)
مباحثه	<i>muba:hisa</i>	mubohasa
مبادا	<i>maba:da:</i>	mabodo
مبارزه	<i>muba:raza</i>	muboraza (esk. kurash)
مبارک	<i>muba:rak</i>	muborak
مبارک باد	<i>muba:rakba:d</i>	muborakbod (tabrik, qutlov)
مباشر	<i>muba:shir</i>	muboshir (esk. boshliq)
مبالغه	<i>muba:lig'a</i>	mubolag'a
مبالغه آميز	<i>muba:lig'a:mez</i>	mubolag'ali

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
مبتلا	<i>mubtala:</i>	mubtalo
مبلغ	<i>mablag', mublig'</i>	mablag'
مبهم	<i>mubham</i>	mubham (noaniq; muhmal)
متاثر	<i>muta:ssir</i>	ta'sirlangan
متاع	<i>mata:</i>	mato (mol, narsa)
متانت	<i>mata:nat</i>	matonat
متخصص	<i>mutaxassis</i>	mutaxassis
مترجم	<i>mutarjim</i>	mutarjim (tarjimon)
متصل	<i>muttasil</i>	muttasil (uzluksiz)
متفكر	<i>mutafakkir</i>	mutafakkir
متكبر	<i>mutakabbir</i>	mutakabbir (mag'rur)
متن	<i>matn</i>	matn (tekst)
متناسب	<i>mutana:sib</i>	mutanosib (bir-biriga mos)
متواضع	<i>mutava:ze</i>	mutavoze (esk. tavezeli, kamtar)
متولى	<i>mutavalli:</i>	mutavalli
متهم	<i>muttaham</i>	muttaham
مثال	<i>misa:l</i>	misol
مثبت	<i>musbat</i>	musbat
مثل	<i>masal</i>	masal (majoziy hikoya, matal)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
مِشَل	<i>misl</i>	misl (o'xshash, misol)
مِشَلًا	<i>maslan</i>	masalan
مِجَاز	<i>maja:z</i>	majoz (metafora, ko'chma ma'no)
مِجَازًا	<i>maja:zan</i>	majozan
مِجَازِي	<i>maja:zi:</i>	majoziy (ko'chma ma'noda)
مِجَال	<i>maja:l</i>	majol (mador)
مِجْبُور	<i>majbu:r</i>	majbur
مِجْبُورًا	<i>majbu:ran</i>	majburan
مِجْبُورِي	<i>majbu:ri:</i>	majburiy
مِجْرُوح	<i>majru:h</i>	majruh (yaralangan)
مِثْرَاگان	<i>mijga:n, mujga:n</i>	mijgon (kipriklar)
مِجْسَم	<i>mujassam</i>	mujassam (shakl olgan, timsol)
مِجْلِس	<i>majlis</i>	majlis
مِجْلَه	<i>mujalla</i>	mujalla (esk. jurnal)
مِجْمَل	<i>mujmal</i>	mujmal (noaniq, muhmal)
مِجْمُوعه	<i>majmu:a</i>	majmua (to'plam)
مِجْنُون	<i>majnu:N</i>	majnun (ishq yo'lida devona bo'lgan)
مِجُوس، مِجُوسِي	<i>maju:s, maju:si:</i>	majus (otashparast)
مِحَاربَه	<i>muha:raba</i>	muhoraba (esk. jang, urush)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
محاصرہ	<i>muha:sira</i>	muhosara (esk. qamal, qurshov)
محافظہ	<i>muha:fiza</i>	muhofaza (himoya)
محاکمہ	<i>muha:kama</i>	muhokama
محبّ	<i>muhib</i>	muhib (esk. muxlis, do'st)
محبت	<i>mohabbat</i>	muhabbat
محبوب	<i>mehbu:b</i>	mahbub (sevimli)
محبوبہ	<i>mehbu:ba</i>	mahbuba
محبوس	<i>mehbu:s</i>	mahbus
محتاج	<i>mo'hta:j</i>	muhtoj
محتاجی	<i>mo'hta:ji:</i>	muhtojlik
محترم	<i>mo'htaram</i>	muhtaram
محتشم	<i>mo'htashim</i>	muhtasham (hashamatli)
محدث	<i>muhaddis</i>	muhaddis
محدود	<i>mehdu:d</i>	mahdud (chegaralangan)
محراب	<i>mehra:b</i>	mehrob
محرر	<i>mo'harrir</i>	muharrir
محرم	<i>mo'harram</i>	muharram (oyning nomi)
محرم	<i>mehram</i>	mahram
محروم	<i>mehru:m</i>	mahrum

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
محرومی	<i>mehru:mi:</i>	mahrumlik (qiyinchilik)
مخزون	<i>mehzu:n</i>	mahzun (g'amgin)
محسن	<i>mo'hsin</i>	muhsin
مخشر	<i>mehshar</i>	mahshar
محصول	<i>mehsu:l</i>	mahsul (mehnat samarasi)
مخاط	<i>mo'hta:t</i>	mo'htot (esk. ehtiyotkor)
مخفل	<i>mehfil</i>	mahfil (o'tirish, davra)
محکم	<i>mehkam</i>	mahkam (puxta)
محکمہ	<i>mehkama</i>	mahkama (idora)
مخکوم	<i>mehku:m</i>	mahkum
محل	<i>mehel</i>	mahal (joy, makon)
محلہ	<i>mo'halla</i>	mahalla
مخنت	<i>mehnat</i>	mehnat
مخنت کش	<i>mehnatkash</i>	mehnatkash
محو	<i>mehv</i>	mahv (yo'q qilish)
مھیٹ	<i>muhi:t</i>	muhit
مخالف	<i>muxa:lif</i>	muxolif (qarshi turgan)
مخالفت	<i>muxa:lafat</i>	muxolafat (kelishmovchilik)
مخبر (جاسوس)	<i>muxbir</i>	muxbir (jurnalist ma'nosida)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
مختار	<i>muxta:r</i>	muxtor (erkin, mustaqil)
مختاريت	<i>muxta:riyat</i>	erkinlik (esk. mustaqillik)
مختصر	<i>muxtasar</i>	muxtasar (qisqartirilgan, lo'nda)
مخدوم	<i>maxdu:m</i>	maxdum (esk. yollovchi)
مخرج	<i>maxraj</i>	maxraj (kasr chizig'i)
مخزن	<i>maxzan</i>	maxzan (xazina)
مخصوص	<i>maxsu:s</i>	maxsus
مخفي	<i>maxfi:</i>	maxfiy
مخلص	<i>muxlis</i>	muxlis
مخلوق	<i>maxlu:q</i>	maxluq (tirik jon)
مخمس	<i>muxammas</i>	muxammas (she'riy janr)
مداح	<i>madda:h</i>	maddoh (maqtovchi)
مداخله	<i>muda:xila</i>	mudoxila (esk. aralashish)
مدافع	<i>muda:fea</i>	mudofaa (himoya qilish)
مدام	<i>muda:m</i>	mudom
مدت	<i>muddat</i>	muddat
مدح	<i>madh</i>	madh (maqtov)
مدحيه	<i>madhi:a</i>	madhiya (gimn)
مدد	<i>madad</i>	madad

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
مددگار	<i>madadga:r</i>	madadkor
مدرس	<i>mudarris</i>	mudarris
مدرسه	<i>madrasa</i>	madrasa
مدرسی	<i>mudarrisi:</i>	mudarrislik
مدعا	<i>muddaa:</i>	muddao
مدنی	<i>madani:</i>	madaniy (ilm-ma'rifatga tegishli)
مدنیت	<i>madni:yat</i>	madaniyat
مدھش	<i>mudhish</i>	mudhish (dahshatli)
مدیر	<i>mudi:r</i>	mudir
مذاکرہ	<i>muza:kira</i>	muzokara
مذکر	<i>muzakkar</i>	muzakkar (erkak jinsiga oid)
مذکور	<i>mazku:r</i>	mazkur (zikr etilgan)
مذہب	<i>mazhab</i>	mazhab (diniy oqim)
مذہبی	<i>mazhabi:</i>	mazhabiy
مراجعت	<i>mura:jeat</i>	murojaat
مراد	<i>mura:d</i>	murod
مراسم (جمع)	<i>mara:sim</i>	marosim
مراصح	<i>mura:sa</i>	murosa
مرام	<i>mara:m</i>	marom
مرتبہ، مرتبہ	<i>murabba:;</i>	murabbo

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
	<i>murabba</i>	
مربع	<i>murabba:</i>	murabba (to'rtburchak)
مربی	<i>murabbi:</i>	murabbiy
مرتبہ	<i>martaba</i>	martaba (mavqe)
مرتد	<i>murtad</i>	murtad (sotqin, xoin)
مرثیہ	<i>marsi:ya</i>	marsiya
مرجان	<i>marja:n</i>	marjon (bezak)
مرچ (لال مرچ)	<i>mirch</i>	murch (کالی مرچ)
مرحبا	<i>marhaba:</i>	marhabo
مرحم	<i>marham</i>	marham
مرحمت	<i>marhamat</i>	marhamat
مرحوم	<i>marhu:m</i>	marhum
مرحومہ	<i>marhu:ma</i>	marhuma
مرد	<i>mard</i>	mard (erkak)
مردار	<i>murda:r</i>	murdor (o'lgan narsa, harom)
مردانہ	<i>marda:na</i>	mardona
مردانہ وار	<i>marda:nava:r</i>	mardonavor (mardlarcha)
مردم	<i>mardum</i>	mardum (el, xalq)
مرد میدان	<i>marde-meyda:n</i>	mardi maydon (qahramon)
مُرده	<i>murda</i>	murda

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
مرزا، اميرزاده	<i>mirza:, ami:rza:da</i>	mirzo (amirzodaning bir shakli)
مرض	<i>marz</i>	maraz (yomon, illat)
مرغ	<i>murg'</i>	murg' (esk. qush)
مرکب	<i>murakkab</i>	murakkab
مرکز	<i>markaz</i>	markaz
مرکزی	<i>markazi:</i>	markaziy
مرگ	<i>marg</i>	marg (o'lim)
مرمر	<i>marmar</i>	marmar
مرداريد	<i>marva:ri:d</i>	marvarid
مردت	<i>muruvvat</i>	muruvvat
مرہم	<i>marham</i>	malham
مریخ	<i>mirri:x</i>	Mirrix (Mars sayyorasi)
مرید	<i>muri:d</i>	murid (izdosh)
مزا، مزہ	<i>maza: , maza</i>	maza (ta'm)
مزاج	<i>miza:j</i>	mijoz (kayfiyat)
مزاح	<i>maza:h</i>	mazah (hazil)
مزاح آمیز	<i>maza:ha:mez</i>	mazahomuz (hazil aralash)
مزار	<i>maza:r</i>	mozor (qabr)
مزدور	<i>mazdu:r</i>	ishchi, batrak
مزیدار	<i>mazeda:r</i>	mazali (shirin)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
مژده	<i>mujda</i>	mujda (xushxabar)
مژگان	<i>mijga:n</i>	mijgon, mujgon (kiprik)
مژه	<i>mijja</i>	mijja (kiprik)
مس	<i>mis</i>	mis (qizilrang metall)
مسافت	<i>masa:fat</i>	masofa (oraliq)
مسافر	<i>musa:fir</i>	musofir
مسافرخانه	<i>musa:firxa:na</i>	musofirxona
مسائل	<i>masa:il</i>	masoil (ko'p. masala)
مست	<i>mast</i>	mast
مستانه	<i>masta:na</i>	mastona (go'zal)
مستثنى	<i>mustasna:</i>	mustasno
مستجاب	<i>mustaja:b</i>	mustajob (qabul bo'ladigan gap)
مستحق	<i>mustahaq</i>	mustahaq (to'g'ri, loyiq)
مستحکم	<i>mustehkam</i>	mustahkam
مستقل	<i>mustaqil</i>	mustaqil (erkin)
مستی	<i>masti:</i>	mastlik (kayf)
مسجد	<i>masji:d</i>	masjid
مسخره	<i>masxara</i>	masxara (mazah; kulgi)
مسخره باز	<i>masxaraba:z</i>	masxaraboz
مسدس	<i>musaddas</i>	musaddas (olti misrali she'r)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
مسرت	<i>masarrat</i>	masarrat (xursandchilik)
مسن	<i>maskan</i>	maskan
مسكه، مسكا	<i>maska, maska:</i>	maska (sariyog')
مسكين	<i>miski:n</i>	miskin (bechorahol odam)
مسح	<i>musallah</i>	musallah (esk. qurollangan)
مسلك	<i>maslak</i>	maslak (g'oya, oqim)
مسلم	<i>musallam</i>	musallam (esk. tan olingan, aniq)
مسلمان	<i>musalma:n</i>	musulmon
مسلماني	<i>musalma:ni:</i>	musulmonlik
مسله	<i>masla, masala</i>	masala
مسنون	<i>masnu:n</i>	masnun (sunnat)
مسواك	<i>misva:k</i>	misvok
مشاق	<i>mashsha:q</i>	mashshoq (sozanda)
مشاهده	<i>musha:hida</i>	mushohada
مشائخ (جمع)	<i>masha:ix</i>	mashoyix (ko'p shayxlar)
مشت	<i>musht</i>	musht
مشت بازی	<i>mushtba:zi:</i>	mushtlashish
مشاق	<i>mushta:q</i>	mushtoq
مشترک، مشترکہ	<i>mushtarak, mushtarka</i>	mushtarak (umumiy)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
مشتري	<i>mushtari:</i>	Mushtariy (Yupiter sayyorasi)
مشرَب	<i>mashrab</i>	mashrab
مشرَف	<i>musharraf</i>	musharraf (sharafli)
مشرق	<i>mashriq</i>	mashriq (sharq)
مشرقي	<i>mashriqi:</i>	sharqiy (Sharqqa tegishli)
مشرقيت	<i>mashriqi:yat</i>	mashriqiyat (sharqona yo'l)
مشرک	<i>mushrik</i>	mushrik (shirk qiluvchi)
مشرُوب	<i>mashru:b</i>	mashrub (suyuqlik moddasi)
مشرعل	<i>masha:l</i>	mash'al, masha'la
مشرعلچي	<i>mashalchi:</i>	mash'alchi
مشرغول، مشغولات	<i>mashg'u:l, mashg'u:la:t</i>	mashg'ul, mashg'ulot
مشرفق	<i>mushfiq</i>	mushfiq
مشرق	<i>mashq</i>	mashq
مشرقت	<i>mashaqqat</i>	mashaqqat
مشرک، مشک انبار	<i>mushk, mushke ambar</i>	mushk, mushki ambar
مشرک آميز	<i>mushka:mez</i>	mushk qo'shilgan
مشرکل	<i>mushkil</i>	mushkul (qiyin)
مشرکلات (جمع)	<i>mushkila:t</i>	mushkulot (ko'p. qiyinchiliklar)
مشرکور	<i>mashku:r</i>	mashkur (esk. minnatdor)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
مَشْمَشَا	<i>mashmasha</i>	mashmasha (mojaro)
مَشْوَرَه ، مَشْوَرَت	<i>mashvara, mashvarat</i>	mashvarat (esk. kengash)
مَشْهُور	<i>mashhu:r</i>	mashhur
مَشِير	<i>mushi:r</i>	mushir (maslahatchi)
مَصْحَاب	<i>musohib</i>	musohib (esk. do'st, hamsuhbat)
مَصَادِرَه	<i>musa:dara</i>	musodara (davlat ixtiyoriga o'tkazish)
مَصَافِحَه	<i>musa:liha</i>	qo'l berib so'rashish
مَصَالِح ، مَصَالِحَه	<i>masa:lah, masa:liha</i>	masalliq (turli ziravorlar)
مَصْحَح	<i>musahhah</i>	musahhah (tuzatuvchi, korrektor)
مَصْدَر	<i>masdar</i>	masdar
مَصْرَع	<i>misra:</i>	misra
مَصْفَا	<i>musaffa:</i>	musaffo
مَصْلِحَت	<i>maslahat</i>	maslahat (mashvara)
مَصْنِف	<i>musannif</i>	musannif (muallif)
مَصْنِفَه	<i>musannifa</i>	musannif ayol
مَضْوَر	<i>musavvir</i>	musavvir
مَصِيبَت	<i>musi:bat</i>	musibat
مَضَافَات	<i>muza:fa:t</i>	muzofot (esk. viloyat)
مَضْمُون	<i>mazmu:n</i>	mazmun

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
مطالعه	<i>muta:lea</i>	mutolaa
مطاييه	<i>muta:iba</i>	mutoyiba (hazil)
مطبوعه ، مطبوعات	<i>matbua, matbu:at</i>	matbuot
مطرب	<i>mutrib</i>	mutrib (sozanda)
مطلب	<i>matlab</i>	matlab
مطلع	<i>matla</i>	matla (she'riy atama)
مُطلق	<i>mutlaq</i>	mutlaq (butunlay)
مطلقاً	<i>mutlaqan</i>	mutlaqo
مطيع	<i>muti:</i>	mute (itoatkor)
مظفر	<i>muzaffar</i>	muzaffar (g'olib)
مظلوم	<i>mazlu:m</i>	mazlum (ezilgan)
معارف	<i>maa:rif</i>	maorif
معاش	<i>maa:sh</i>	maosh
معالجه	<i>mua:lija</i>	muolaja
معامله	<i>mua:mila</i>	muomala
معاون	<i>mua:vin</i>	muovin
معاهده	<i>mua:hida</i>	muohada (esk. bitim)
معتبر	<i>mo'tabar</i>	mo'tabar
معتدل	<i>mo'tadil</i>	mo'tadil
معجزه، معجزا	<i>mo'jiza, mo'jiza:</i>	mo'jiza (ajoyibot)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
مېجون	<i>ma:ju:n</i>	ma'jun (giyohvandning bir turi)
معدن	<i>ma:dan</i>	ma'dan (mineral)
معذرت	<i>ma:zirat</i>	ma'zirat (uzr)
معذور	<i>ma:zu:r</i>	ma'zur (uzrli)
معراج	<i>mera:j</i>	me'roj
معركه	<i>ma:raka</i>	ma'raka (yig'in, marosim)
معروض	<i>ma:ru:z</i>	ma'ruza (gap, nutq)
معروف	<i>ma:ru:f</i>	ma'ruf (taniqli)
معشوق	<i>ma:shu:q</i>	ma'shuq (xushtor)
معشوقه	<i>ma:shu:qa</i>	ma'shuqa
معصوم	<i>ma:su:m</i>	ma'sum
معطر	<i>mo'attar</i>	muattar
معظم	<i>muazzam</i>	muazzam
معقول	<i>ma:qu:l</i>	ma'qul
معلق	<i>muallaq</i>	muallaq (osilib qolgan)
معلم	<i>muallim</i>	muallim
معلمه	<i>muallima</i>	muallima
معلوم	<i>ma:lu:m</i>	ma'lum
معلومات	<i>ma:lu:ma:t</i>	ma'lumot (xabar)
مُعْتَمَد، مُعْتَمَر	<i>muamma:</i>	muammo

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
معمار	<i>mema:r</i>	me'mor
معماری	<i>mema:ri:</i>	me'morchilik
معمور	<i>ma:mu:r</i>	ma'mur (mas'ul)
معمه	<i>muamma</i>	muammo
معنوی	<i>ma:navi:</i>	ma'naviy
معنویت	<i>ma:nvi:yat</i>	ma'naviyat
معنی، معنی	<i>ma:ni:, ma:na:</i>	ma'no
معیار	<i>meya:r</i>	me'yor
معیشت	<i>mai:shat</i>	maishat
معیّن	<i>muayyan</i>	muayyan
معیوب	<i>mayu:b</i>	ma'yub (kamchiligi bor)
مغرب	<i>mag'rib</i>	mag'rib (g'arb)
مغرور	<i>mag'ru:r</i>	mag'rur
مغرورانہ	<i>mag'ru:ra:na</i>	mag'rurlik bilan
مغز	<i>mag'z</i>	mag'iz (mohiyat)
مغلوب	<i>mag'lu:b</i>	mag'lub (yengilgan)
مغلوبیت	<i>mag'lu:bi:at</i>	mag'lubiyat (yengilish)
مُغنی	<i>mug'anni:</i>	mug'anniy (xonanda)
مفت	<i>muft</i>	muft (bepul, tekin)
مفت خور	<i>muftxo'r</i>	muftxo'r (tekinxo'r)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
مفتون	<i>maftu:n</i>	maftun (shaydo)
مفتى	<i>mufti:</i>	muftiy
مفصل	<i>mufassal</i>	mufassal
مفكر	<i>mufakkir</i>	mufakkir
مفهوم	<i>mafhu:m</i>	mafhum (ma'no)
مفيد	<i>mufti:d</i>	mufid (foydali)
مقابل	<i>muqa:bil</i>	muqobil
مقابله	<i>muqa:bila</i>	muqobala
مقال	<i>maqa:l</i>	maqol
مقاله	<i>maqa:la</i>	maqola
مقام	<i>maqa:m</i>	maqom
مقاييسه	<i>muqa:yasa</i>	muqoyasa (solishirish)
مقبره	<i>maqbara</i>	maqbara
مقبول	<i>maqbu:l</i>	maqbul
مقبوليت	<i>maqbu:liyat</i>	maqbuliyat (tan olish)
مقدار	<i>miqda:r</i>	miqdor
مقدس	<i>muqaddas</i>	muqaddas
مقدم	<i>muqaddam</i>	muqaddam
مقدمه	<i>muqaddima</i>	muqadima
مقرر	<i>muqarrar</i>	muqarrar

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
مقصد	<i>maqsad</i>	maqsad
مقصود	<i>maqsu:d</i>	maqsud
مقطع	<i>maqta</i>	maqta (she'rdagi oxirgi band)
مقیاس	<i>miqya:s</i>	miqyos (ko'lam, o'lchov)
مقیم	<i>muqi:m</i>	muqim
مکا	<i>makka</i>	makka (jo'xori)
مکہ	<i>makka:</i>	Makka (shahar)
مُکا	<i>mukka:</i>	mukka (muk tushmoq)
مکار	<i>makka:r</i>	makkor (ayyor)
مکاره	<i>makka:ra</i>	makkora (ayol)
مکاری	<i>makka:ri:</i>	makkorlik
مکافات	<i>muka:fa:t</i>	mukofot
مکان	<i>maka:n</i>	makon
مکتب	<i>maktab</i>	maktab
مکتب خانہ	<i>maktabxa:na</i>	maktabxona
مکتوب	<i>maktu:b</i>	maktub
مکر	<i>makr</i>	makr
مکرم	<i>mukarram</i>	mukarram
مکروه	<i>makru:h</i>	makruh (harom)
مکمل	<i>mukammal</i>	mukammal

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
ملا	<i>mulla:</i>	mulla
ملاحظه	<i>mula:hiza</i>	mulohaza
ملازم	<i>mula:zim</i>	mulozim
ملاقات	<i>mula:qa:t</i>	muloqot
ملاال	<i>mala:l</i>	malol
ملاامت	<i>mala:mat</i>	malomat
ملائك، ملائكه	<i>mala:ik, mala:ika</i>	maloik, maloika (farishtalar)
ملائم	<i>mula:im</i>	muloyim
ملت	<i>millat</i>	millat
ملعون	<i>mal'u:n</i>	mal'un (la'nati)
ملك	<i>malak</i>	malak (farishta)
ملك	<i>mulk</i>	mulk (boyluk)
ملكة	<i>malka</i>	malika
ملكة	<i>malaka</i>	malaka
ملى	<i>milli:</i>	milliy
ممتاز	<i>mumta:z</i>	mumtoz
مسك	<i>mumsik</i>	mumsik (ziqna)
ممکن	<i>mumkin</i>	mumkin
مملکت	<i>mamlakat, mamlukat</i>	mamlakat
ممنوع	<i>mamnu:</i>	mamnu' (esk. man')

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
		etilgan)
ممنون	<i>mamnu:n</i>	mamnun (minnatdor)
ممنونیت	<i>mamnu:ni:yat</i>	mamnuniyat
مناجات	<i>muna:ja:t</i>	munojot
مناسب	<i>muna:sib</i>	munosib
مناسبت	<i>muna:sibat</i>	munosabat
مناظره	<i>muna:zira</i>	munozara
منافق	<i>muna:fiq</i>	munofiq
منبر	<i>minbar</i>	minbar
منبع	<i>mamba:</i>	manba
من بعد	<i>minba:d</i>	minba'd (esk. bundan keyin)
منت	<i>minnat</i>	minnat
منتظر	<i>muntazir</i>	muntazir
منجھ	<i>munajjim</i>	munajjim
مندرجه	<i>mundarja</i>	mundarija
منزل	<i>manzil</i>	manzil
منسوب	<i>munsu:b</i>	mansub
منشی	<i>munshi:</i>	munshi (esk. kotib)
منصب	<i>mansab</i>	mansab
منطق	<i>mantiq</i>	mantiq

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
منطقه	<i>mintaqa</i>	mintaqa
منطقی	<i>mantiqi:</i>	mantiqiy
منظر	<i>manzar</i>	manzara
منظور	<i>manzu:r</i>	manzur (ma'qul)
منع	<i>mana:</i>	man' (etish)
منفعت	<i>manfaat</i>	manfaat
منفی	<i>manfi:</i>	manfiy
منعقد	<i>munaqqid</i>	tanqidchi
منقش	<i>munaqqash</i>	munaqqash (esk. naqshlangan)
منقل	<i>manqal</i>	manqal (o'choq)
منکر	<i>munkar</i>	munkar (esk. tan olmaslik)
منگ	<i>mung</i>	mung (ma'yuslik)
متور	<i>munavvar</i>	munavvar
منی	<i>mani:</i>	maniy (sperma)
مو	<i>mu:</i>	mo'y (tuk, soch tolasi)
موافق	<i>muva:fiq</i>	muvofiq
موج	<i>maoj</i>	mavj (to'lqin)
موجز	<i>mo'jaz</i>	mo'jaz (ixcham)
مोजان	<i>maojzan</i>	mavjzan (to'lqinlanayotgan)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
موجود	<i>mouju:d</i>	mavjud
موجودات	<i>mouju:da:t</i>	mavjudot
موذن	<i>muazzin</i>	muazzin (namozga chaqiruvchi shaxs)
مؤرخ	<i>muarrix</i>	muarrix (esk. tarixchi)
مورى	<i>mo'ri:</i>	mo'ri (tarnov)
موسم	<i>maosam</i>	mavsum
موسىچ	<i>mu:si:cha</i>	musicha
موسىقه، موسىقى	<i>mu:si:qa:, mu:si:qi:</i>	musiqqa
موضع	<i>maozza:</i>	mavze
موضوع	<i>maozu:</i>	mavzu
موقت	<i>muvaqqat</i>	muvaqqat
موقع	<i>maoqa:</i>	mavqe (joy, imkoniyat)
مول	<i>mo'l</i>	mol
مولانا	<i>maola:na:</i>	mavlono
مولود	<i>maolu:d</i>	mavlud (tug'ilgan)
مولوى	<i>maolavi:</i>	mavlono
موم	<i>mo'm</i>	mum
مومن	<i>mo'min</i>	mo'min
مونس	<i>mu:nis</i>	munis
مویز	<i>mavi:z</i>	mayiz

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
مَوْھوم	<i>maohu:m</i>	mavhum
مہابت	<i>maha:bat</i>	mahobat (salobat)
مہاجر	<i>muha:jir</i>	muhojir
مہاجرت	<i>muha:jirat</i>	mohijirat
مہارت	<i>maha:rat</i>	mahorat
مہتشم	<i>muhtashim</i>	muhtasham, (hashamatli)
مہد	<i>mehed</i>	mahad (esk. belanchak)
مُھر	<i>muhr</i>	muhr (tamg'a)
مہر	<i>mahr</i>	mahr
مہر	<i>mehr</i>	mehr
مہربان	<i>mehrba:n</i>	mehribon
مہربانی	<i>mehrba:ni:</i>	mehribonlik
مہر گیاه	<i>mehre giya:h</i>	mehrigiyoh (o'simlik: o'ziga mehrni tortuvchi)
مہلت	<i>mo'hlat</i>	muhlat
مہم	<i>muhim</i>	muhim
مہمان	<i>mehma:n</i>	mehmon
مہمان خانہ	<i>mehma:nxa:na</i>	mehmonxona
مہمانداری	<i>mehma:nda:ri</i>	mehmondorchilik
مہمان نواز	<i>mehma:nnava:z</i>	mehmonnavoz
مہمان نوازی	<i>mehma:nnava:zi:</i>	mehmonnavozlik

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
مہمل	<i>mo'hmal</i>	mo'hmal (mujmal, noaniq)
مہوش	<i>mehvash</i>	mahvash (go'zal)
مہیا	<i>muhayya:</i>	muhayyo
میانہ	<i>miya:na</i>	miyona
میت	<i>mayyat</i>	mayyit, murda
میخ	<i>mi:x</i>	mix
میدان	<i>meyda:n</i>	maydon
میدان جنگ	<i>meyda:ne jang</i>	jang maydoni
میدہ (میدرا)	<i>meyda</i>	mayda (oliy nav un)
میر آب	<i>mi:ra:b</i>	mirob
میراث	<i>mi:ra:s</i>	meros
میراثی	<i>mi:ra:si:</i>	merosxo'r
میز	<i>mez</i>	miz (stol)
میزان	<i>mi:za:n</i>	mezon
میزبان	<i>mezba:n</i>	mezbon
میزبانی	<i>mezba:ni:</i>	mezbonlik
میسر	<i>muyassar</i>	muyassar
میش (بھیڑ)	<i>mesh</i>	mesh (sanoch; qo'y terisi)
میل	<i>meil</i>	mayl (qiziqish, intilish)
میمون (بندر کی ایک قسم)	<i>meymu:n</i>	maymun

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
مينا	<i>meyna:</i>	mayna (sayroqi qush turi)
ميناړ	<i>mi:na:r</i>	minor
ميوه	<i>meva</i>	meva
ميوه دار	<i>mevada:r</i>	mevador (serhosil)
ميوه فروش	<i>mevafaro 'sh</i>	mevafurush

(nūn) ن

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
نا	<i>na:</i>	no (inkor ma'nodagi old qo'shimcha)
نا آشنا	<i>na:ashna:</i>	nooshno
نا اُمید	<i>na:umi:d</i>	noumid
نا اُمیدی	<i>na:umi:di:</i>	noumidlik
نا انصاف	<i>na:insa:f</i>	noinsof
نا انصافی	<i>na:insa:fi:</i>	noinsoflik, adolatsizlik
نا بکار	<i>na:baka:r</i>	nobakor (yaramas)
نا بود	<i>na:bu:d</i>	nobud
نا پاک	<i>na:pa:k</i>	nopok (iflos; yomon)
نا تو اوان	<i>na:tava:N</i>	notavon (zaif, kuchsiz)
نا تو اوانی	<i>na:tava:ni:</i>	notavonlik
نا جنس	<i>na:jins</i>	nojins (beodob, pastkash)
نا چار	<i>na:cha:r</i>	nochor
نا حق	<i>na:haq</i>	nohaq (adolatsizlik)
نا خوش	<i>na:xu:sh</i>	noxush (ranjida; norozi)
نا خوشی	<i>na:xu:shi:</i>	noxushlik
نا خون ، ناخن	<i>na:xu:n , na:xun</i>	noxun (tirnoq)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
نادان	<i>na:da:n</i>	nodon
نادانى	<i>na:da:ni:</i>	nodonlik
نادر	<i>na:dir</i>	nodir
نار (انار)	<i>na:r</i>	nor (anor)
نار (آتش)	<i>na:r</i>	nor (olov)
ناراض	<i>na:ra:z</i>	noroz
ناراضگى	<i>na:ra:zgi:</i>	norozilik
نارسیده	<i>na:rasi:da</i>	norasida
نارنج	<i>na:ranj</i>	norinj
ناروا (ناجايز)	<i>na:rava:</i>	noravo (noma'qul)
ناز	<i>na:z</i>	noz
نازک	<i>na:zuk</i>	nozik
نازکى	<i>na:zuki:</i>	noziklik
نازل	<i>na:zil</i>	nozil
نازىن	<i>na:zni:n</i>	nozanin
ناز و نعمت	<i>na:zo' nemat</i>	noz-ne'mat
ناس	<i>na:s</i>	nos, nosvoy
ناساز	<i>na:sa:z</i>	nosoz
ناسازى	<i>na:sa:zi:</i>	nosozlik
ناس دانى	<i>na:sda:ni:</i>	nosdon

اُردو	تلفظ	اُزبیک
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
ناشپاتی	<i>na:shpa:ti:</i>	nashvati (nokning bir turi)
ناشته	<i>na:shta</i>	nonushta
ناشر	<i>na:shir</i>	noshir
ناشکرا	<i>na:shukra:</i>	noshukur (ko'rnamak)
ناشکری	<i>na:shukri:</i>	noshukurlik
ناطق	<i>na:tiq</i>	notiq
ناظر	<i>na:zir</i>	nozir (nazorat qiluvchi)
ناقابل	<i>na:qa:bil</i>	noqobil (layoqatsiz)
ناک (بمعنی ناشپاتی)	<i>na:k</i>	nok
ناکس	<i>na:kas</i>	nokas (yaramas)
ناگاہ، ناگہاں (بے وقت)	<i>na:ga:h,</i> <i>na:gaha:N</i>	nogoh, nogahon (birdaniga)
نالان	<i>na:la:N</i>	nola (fig'on)
نالائیق	<i>na:la:iq</i>	noloyiq
نالیش	<i>na:lish</i>	nolish
نالہ	<i>na:la</i>	nola
نام	<i>na:m</i>	nom
نام بنام	<i>na:m- bana:m</i>	nomma-nom
نام دار	<i>na:mda:r</i>	nomdor (mashhur)
نام و نشان	<i>na:m-o-nisha:n</i>	nom-nishon (darak)
نامحرم	<i>na:mehram</i>	nomahram

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
نامرد	<i>na:mard</i>	nomard
نامزد	<i>na:mza:d</i>	nomzod (kandidat)
نامعلوم	<i>na:ma:lu:m</i>	noma'lum
نامناسب	<i>na:muna:sib</i>	nomunosib
ناموافق	<i>na:muva:fiq</i>	nomuvofiq (mos kelmaydigan)
ناموس	<i>na:mu:s</i>	nomus
نامہ	<i>na:ma</i>	noma (maktub)
نان	<i>na:n</i>	non
نان بائی	<i>na:nba:i:</i>	nonvoy, novvoy
نان کور (نمک حرام)	<i>na:nko'r</i>	nonko'r
نان نمک	<i>na:n-namak</i>	non-namak (nasiba, rizq-ro'z)
نایاب	<i>na:ya:b</i>	noyob
نائب	<i>na:ib</i>	noib
نائے	<i>na:y</i>	nay
نیاتات	<i>naba:ta:t</i>	nabotot
نبض	<i>nabz</i>	nabz
نبی	<i>nabi:</i>	Nabi (Payg'ambar)
نیرہ	<i>nabi:ra</i>	nevara, nabira
نتیجہ	<i>nati:ja</i>	natija
نثار	<i>nisa:r</i>	nisor (hadya)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
نشر	<i>nasr</i>	nasr
نشرى	<i>nasri:</i>	nasriy
نجات	<i>nija:t</i>	najot
نحس	<i>nehs</i>	nahs (baxtsizlik)
نجس، نجاست	<i>najas, naja:sat</i>	najosat, najas
نحو	<i>nehv</i>	nahv (esk. sintaksis)
نخود	<i>nuxu:d</i>	no'xot
ندا	<i>nida:</i>	nido (ovoz)
ندامت	<i>nada:mat</i>	nadomat
ندیم	<i>nadi:m</i>	nadim (yaqin, sirdosh)
نذر	<i>nazr</i>	nazr (xayr-sadaqa)
نر	<i>nar</i>	nar (erkak)
نرخ	<i>nirx</i>	narx
نرخ نامه	<i>nirxna:ma</i>	narxnoma
نردبان	<i>nardba:n</i>	narvon
نرگس	<i>nargis</i>	nargis (gul)
نرم	<i>narm</i>	narm
نزاع	<i>niza:</i>	nizo
نزاكت	<i>naza:kat</i>	nazokat
نزد	<i>nazd</i>	nazd (oldida)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
نزله	<i>nazla</i>	nazla (shamollash)
نسب	<i>nasab</i>	nasab
نسب نامه	<i>nasabna:ma</i>	nasabnoma
نسبت	<i>nisbat</i>	nisbat
نستعلیق	<i>nasta:li:q</i>	nasta'liq (urdu yozuvining bir turi)
نسخه	<i>nusxa</i>	nusxa
نسل	<i>nasl</i>	nasl
نسل دار	<i>naslda:r</i>	nasldor (zotli)
نسلأ	<i>naslan</i>	naslan
نسلی	<i>nasli:</i>	nasliy
نسوار	<i>nisva:r</i>	nosvoy
نسیم	<i>nasi:m</i>	nasim (sabo)
نسیه	<i>nasi:ya</i>	nasiya (muhat; qarz)
نشان	<i>nisha:n</i>	nishon (belgi)
نشاندار	<i>nisha:nda:r</i>	nishondor (mukofotga ega bo'lgan shaxs)
نشانه	<i>nisha:na</i>	nishona
نشرت	<i>nishtar</i>	nishtar, skalpel (pichoqcha)
نشر	<i>nashr</i>	nashr
نشریات	<i>nashrya:t</i>	nashriyot

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
نشا، نشا	<i>nasha, nasha:</i>	nasha (kayf)
نشيپ	<i>nasheb</i>	nishab (qiyalik)
نصرانی	<i>nasra:ni:</i>	nasroniy (xristian diniga mansub)
نصف	<i>nisf</i>	nisf (yarim)
نصيب	<i>nasi:b</i>	nasib (taqdir)
نصيحت	<i>nasi:hat</i>	nasihat
نصيحت آميز	<i>nasi:hata:mez</i>	nasihatomuz (nasihat tarzida)
نصيحت گو	<i>nasi:hatgo'</i>	nasihatgo'y
نطفه	<i>nutfa</i>	nutfa (pusht, maniy)
نطق	<i>nutq</i>	nutq
نظارت	<i>naza:rat</i>	nazorat
نظاره	<i>nazza:ra</i>	nazzora (qarash, nigoh tashlash)
نظام	<i>niza:m</i>	nizom
نظر	<i>nazar</i>	nazar
نظري	<i>nazri:</i>	nazariy (biror nazariyaga oid)
نظريه	<i>nazriya</i>	nazariya
نظم	<i>nazm</i>	nazm
نعت	<i>na:t</i>	na't (payg'ambarlar sha'niga aytiladigan she'riy vasf, maqtov)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
نعره	<i>na:ra</i>	na'ra
نعل	<i>na:l</i>	na'l, nag'al (taqa; tagcharm)
نعمت	<i>nemat</i>	ne'mat (in'om)
نغمه	<i>nag'ma</i>	nag'ma (kuy, ohang)
نفاست	<i>nafa:sat</i>	nafosat
نفاق	<i>nifa:q</i>	nifoq
نفر	<i>nafar</i>	nafar (son, adad)
نفرت	<i>nafrat</i>	nafrat
نفس	<i>nafs</i>	nafas olish (dam)
نفس (خوابش نفسانی)	<i>nafs</i>	nafs (ko'ngil; ehtiros)
نفسانیت	<i>nafsa:ni:yat</i>	nafsoniyat (izzat-nafs, g'urur)
نفع	<i>nafa:</i>	naf
نفقہ	<i>nafqa</i>	nafaqa
نفل	<i>nafl</i>	nafl (qo'shimcha o'qiladigan namoz)
نفیس	<i>nafi:s</i>	nafis
نقاب	<i>niqa:b</i>	niqob
نقاب دار	<i>niqa:bda:r</i>	niqobdor (niqobli)
نقارچی	<i>naqqa:rchi:</i>	nog'orachi
نقارہ	<i>naqqa:ra</i>	nog'ora

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
نقاش	<i>naqqa:sh</i>	naqqosh
نقاشى	<i>naqqa:shi:</i>	naqqoshlik
نقد	<i>naqd</i>	naqd (aniq)
نقدینہ	<i>naqdi:na</i>	naqdina (naqd pul)
نقرہ	<i>nuqra</i>	nuqra (esk. kumush)
نقش، نقشہ	<i>naqsh, naqsha</i>	naqsh, naqsha
نقشیں	<i>naqshi:N</i>	naqshin (naqshli)
نقص	<i>nuqs</i>	nuqs (kamchilik)
نقصان	<i>nuqsa:n</i>	nuqson
نقطہ	<i>nuqta</i>	nuqta
نقطہ نظر	<i>nuqta-e nazar</i>	nuqtai nazar
نقل	<i>naql</i>	naql (hikoya)
نقلی	<i>naqli:</i>	naqliy (ko'chirilgan)
نقول (نقل سے جمع)	<i>nuqu:l</i>	nuqul (doimo, hamon)
نقیب	<i>naqi:b</i>	naqib (esk. rahbar, boshliq)
نکاح	<i>nika:h</i>	nikoh
نگار	<i>niga:r</i>	nigor (a. go'zal; b. yozadigan)
نگاراں	<i>niga:ra:N</i>	nigoron (zoriqib kutuvchi)
نگاہ	<i>niga:h</i>	nigoh

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
نگاه بان	<i>niga:hba:n</i>	nigohbon (qorovul)
نگوں	<i>nigu:N</i>	nigun (ezilgan, bukilgan)
نم	<i>nam</i>	nam
نماز	<i>nama:z</i>	namoz
نماز شام	<i>nama:zsha:m</i>	namozshom, oqshom
نمایاں	<i>numa:ya:N</i>	namoyon
نمائش	<i>numa:ish</i>	namoyish
نمائش گاہ	<i>numa:ishga:h</i>	namoyishgoh
نمائندہ	<i>numa:inda</i>	namoyanda
نمد	<i>namad</i>	namat (sholcha, palos)
نمک	<i>namak</i>	namak (tuz)
نمونہ	<i>namu:na</i>	namuna
نوا	<i>nava:</i>	navo
نواب	<i>nava:b</i>	navob
نوازش	<i>nava:zish</i>	navozish
نوبت	<i>naobat</i>	navbat
نوبهار	<i>naobaha:r</i>	navbahor
نوجوان	<i>naojava:n</i>	navjuvon
نوحہ	<i>naoha</i>	navha (esk. dod-faryod)
نور	<i>nu:r</i>	nur

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
نورافشان	<i>nu:rafsha:n</i>	nurafshon
نورانی	<i>nu:ra:ni:</i>	nuroniyy
نوروز	<i>naoro'z</i>	navro'z
نوش	<i>no'sh</i>	no'sh, ichish
نوع	<i>nao</i>	nav
نوکر	<i>naokar</i>	navkar (xodim)
نونہال	<i>naoniha:l</i>	navnihol (yosh avlod, o'smir)
نہار	<i>naha:r ,niha:r</i>	nahor
نہال	<i>niha:l</i>	nihol
نہاں، پنہاں	<i>niha:N, pinha:N</i>	nihon (yashirin)
نہایت	<i>niha:yat</i>	nihoyat (axiyri, juda, o'ta)
نہر	<i>nehr</i>	nahr (kanal)
نہنگ (مگر مچھ)	<i>nahang</i>	nahang (timsoh)
نیت	<i>ni:yat</i>	niyat
نیرنگ	<i>neyrang</i>	nayrang, makr
نیرنگ باز	<i>neyrangba:z</i>	nayrangboz
نیزہ	<i>neyza</i>	nayza
نیست ونابود	<i>nest-o-na:bu:d</i>	nest-nobud
نیش	<i>ni:sh</i>	nish (chaqish)
نیل	<i>ni:l</i>	nil (ko'krang)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
نيل گون	<i>ni:lgu:n</i>	nilgun (moviyrang)
نيلوفر	<i>ni:lo'far</i>	nilufar (gul)
نيم	<i>ni:m</i>	nim (yarim)
نيم جان	<i>ni:mja:n</i>	nimjon (zaif)
نيمچه	<i>ni:mcha</i>	nimcha

و (vā'o)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
وابسته	<i>va:basta</i>	vobasta
واجب	<i>va:jib</i>	vojib
واحد	<i>va:hid</i>	vohid
وادی	<i>va:di:</i>	vodiy
وارث	<i>va:ris</i>	voris
واسطه	<i>va:sta</i>	vosita (rishta)
واصل	<i>va:sil</i>	vosil (erishish)
واعظ	<i>va:iz</i>	voiz (esk. va'z qiluvchi)
واعظ خوانی	<i>va:zxva:ni:</i>	va'zxonlik
واقع	<i>va:qe</i>	voqe' (ro'y berayotgan)
واقعات	<i>va:qea:t</i>	voqeot (esk. voqealar)
واقعی	<i>vaqei:</i>	voqeyi (haqiqatan)
واقعہ	<i>va:qea</i>	voqea
واقف	<i>va:qif</i>	voqif
والد	<i>va:lid</i>	volid (esk. ota)
والدہ	<i>va:lida</i>	valida
والدین	<i>va:lideyn</i>	volidayn (esk. ota-ona)
والسلام	<i>vassala:m</i>	vassalom

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
والى	<i>va:li:</i>	voliy (esk. hokim)
واويلا	<i>va:veyla:</i>	vovaylo (afsus, nadomat)
واهمه	<i>va:hema</i>	vahima
وبا	<i>vaba:</i>	vabo
وثيقه	<i>vasi:qa</i>	vasiqa (hujjat)
وجاهت	<i>vaja:hat</i>	vajohat (ko'rinish)
وجدان	<i>vijda:n</i>	viydon (diyomat, insof)
وجود	<i>vuju:d</i>	vujud
وجوديت	<i>vuju:di:yat</i>	vujudiyat
وجه	<i>vaja</i>	vaj, vajh (sabab, asos)
وحدت	<i>vehdat</i>	vahdat (birlik, yagonalik)
وحدانيت	<i>vehda:ni:yat</i>	vahdoniyat (yakkaxudolik)
وحشت	<i>vehshat</i>	vahshat
وحشى	<i>vehshi:</i>	vahshiy
وحشيانه	<i>vehshi:ya:na</i>	vahshiyona
وحى	<i>vahi:</i>	vahiy
وداع	<i>vida:</i>	vido (xayrlashuv)
ورق	<i>varaq</i>	varaq (sahifa)
وزراء	<i>vizara:</i>	vuzaro (esk. vazirlar)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
وزن	<i>vazn</i>	vazn
وزير	<i>vazi:r</i>	vazir
وزير اعظم	<i>vazi:re a:zam</i>	vaziri a'zam (bosh vazir)
وسواس	<i>vasva:s</i>	vasvos
وسوسه	<i>vasvasa</i>	vasvasa
وسيله	<i>vasi:la</i>	vasila (vosita)
وصال	<i>visa:l</i>	visol
وصف	<i>vasf</i>	vasf (esk. ta'rif, maqtash)
وصل	<i>vasl</i>	vasl (uchrashuv)
وصيت	<i>vasi:yat</i>	vasiyat
وطن	<i>vatan</i>	vatan
وظيفة	<i>vazi:fa</i>	vazifa (maqsad; burch)
وعده	<i>va:da</i>	va'da
وعظ	<i>va:z</i>	va'z
وعظ خوانی	<i>va:zxva:ni:</i>	va'zxonlik
وعليكم السلام	<i>vaa:laykum -us sala:m</i>	vaalaykum-assalom
وفا	<i>vafa:</i>	vafo
وفات	<i>vafa:t</i>	vafot
وفادار	<i>vafa:da:r</i>	vafodor

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
وقار	<i>viqa:r</i>	viqor
وقالچ	<i>vaqa:e:</i>	vaqoye
وقت	<i>vaqt</i>	vaqt
وقت بوقت	<i>vaqt-bavaqt</i>	vaqti-vaqti bilan
وقالچ نویس	<i>va:qa:navi:s</i>	voqeanavis
وقف	<i>vaqf</i>	vaqf (xayriya)
وقف نامہ	<i>vaqfna:ma</i>	vaqfnoma
وکالت (وکیل کا پیشہ)	<i>vaka:lat</i>	vakolat
وکالت نامہ	<i>vaka:latna:ma</i>	vakolatnoma (hujjat)
وکیل	<i>vaki:l</i>	vakil
ولایت	<i>vila:yat</i>	viloyat
ولے	<i>vale</i>	vale
ولی	<i>vali:</i>	valiy
ولی عہد	<i>vali:ehd</i>	valiahd
ولی نعمت	<i>vali:nemat</i>	valine'mat (qo'li ochiq, saxovatli)
وہم	<i>vehm</i>	vahm
وہیمہ	<i>vahi:ma</i>	vahima (qo'rquv)
ویران	<i>vi:ra:n</i>	vayron
ویرانہ	<i>vi:ra:na</i>	vayrona (vayron bo'lgan)

(choṭī he) ۵

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
هاضمه	<i>ha:zima</i>	hozima (esk. ovqatni hazm qilish)
هاں	<i>ha:N</i>	ha (albatta)
هاوان	<i>ha:va:n</i>	xovoncha
هجا	<i>hija:</i>	hijo (bo'g'in)
هجر	<i>hajr</i>	hajr (ayriliq)
هجران	<i>hijra:n</i>	hijron
هجرت	<i>hijrat</i>	hijrat (ko'chish)
هجري	<i>hijri:</i>	hijriy (Islomdagi yil hisobi)
هيجرا، هيجرا	<i>hijRa:</i>	hijra (xezalak)
هجو (مذمت)	<i>hajv</i>	hajv (hazil-mazah)
هجوم (حمله)	<i>huju:m</i>	hujum (hamla)
هجوی	<i>hajvi:</i>	hajviy
هدایت	<i>hida:yat</i>	hidoyat
هدف	<i>hadaf</i>	hadaf (marra; maqsad)
هدیه	<i>hadya</i>	hadya
هر	<i>har</i>	har (har qaysi)
هرچند	<i>harchand</i>	garchand, garchi

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
هرگز	<i>hargiz</i>	hargiz (aslo, hech qachon)
هزار	<i>haza:r</i>	hazor (ming)
هزاران، هزاروں	<i>haza:ra:n,</i> <i>haza:ro 'N</i>	hazon (esk. minglab)
هزل	<i>hazl</i>	hazil
هزل آميز	<i>hazla:mez</i>	hazilomuz (hazil aralash)
هزل کش	<i>hazlkash</i>	hazilkash
هزل گو	<i>hazlgo 'y</i>	hazilgo'y (hazilkash)
هضم	<i>hazm</i>	hazm (singdirish)
هفته (سنيچر کاروز)	<i>hafta</i>	hafta
هكذا (اسی طرح)	<i>hakza:</i>	hokazo
هلاک	<i>hala:k</i>	halok
هلاکت	<i>hala:kat</i>	halokat
هلال	<i>hila:l</i>	hilol (yangi chiqqan oy)
هم	<i>ham</i>	ham (birga, birgalikda)
هما	<i>huma:</i>	humo (afsonaviy qush)
همايون	<i>huma:yu:N</i>	humoyun (esk. qutlug', muqaddas)
هم آهنگ	<i>hama:hang</i>	hamohang
همت	<i>himmat</i>	himmat, jur'at
هم جہتی	<i>hamjeheti:</i>	hamjihatlik

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
ہم خانہ	<i>hamxa:na</i>	hamxona
ہم دم	<i>hamdam</i>	hamdam (do'st)
ہم درد	<i>hamdard</i>	hamdard
ہم دردی	<i>hamdardi:</i>	hamdardlik
ہم راز	<i>hamra:z</i>	hamroz (sirdosh)
ہم راہ	<i>hamra:h</i>	hamroh
ہم راہی	<i>hamra:hi:</i>	hamrohlik
ہم سایہ	<i>hamsa:ya</i>	hamsoya (qo'shni)
ہم شہر	<i>hamsheher</i>	hamshahar
ہم شیرہ	<i>hamshi:ra</i>	hamshira (a.opa yoki singil; b. tibbiyot hamshirasi)
ہم صحبت	<i>hamsuhbat</i>	hamsuhbat (suhbatdosh)
ہم عصر	<i>hamasr</i>	hamasr (asrdosh)
ہم فکر	<i>hamfikr</i>	hamfikr
ہم کار	<i>hamka:r</i>	hamkor
ہم نشین	<i>hamnashi:n</i>	hamnishin (do'st, suhbatdosh)
ہم نفس	<i>hamnafas</i>	hamnafas
ہمہ	<i>hama</i>	hama (barcha)
ہمہ وقت	<i>hama vaqt</i>	hama vaqt (hamon)
ہمیانی	<i>hamya:ni:(hamya:n)</i>	hamyon

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
بهميشه	<i>hamesha</i>	hamisha, hamon
هند	<i>hind</i>	hind (Hindistonga tegishli)
هندسه	<i>handisa</i>	handasa (esk. geometriya)
هندق	<i>handaq</i>	handaq
هندو	<i>hindu:</i>	hindu (mazhabiga ko'ra)
هندوی	<i>hindavi:</i>	hindavi (esk. urdu tilining qadimgi nomlaridan biri)
هنر	<i>hunar</i>	hunar (mahorat, kasb)
هنر مند	<i>hunarmand</i>	hunarmand
هنر مندی	<i>hunarmandi:</i>	hunarmandlik
هنگامه (مجمع، شور)	<i>hanga:ma</i>	hangoma (suhbat, guring)
هنوز	<i>hanu:z</i>	hanuz (hozirgacha)
هوا	<i>hava:</i>	havo, shamol, yel
هو ادار	<i>hava:da:r</i>	havodor (ochiq, bahavo)
هوائی	<i>hava:i:</i>	havoyi (yengil-yelpi)
هوس	<i>havas</i>	havas (ishtiyiq, rag'bat, qiziqish)
هوس کار	<i>havaska:r</i>	havaskor (qiziquvchi)
هوس مند	<i>havasmand</i>	havasmand (havaskor)
هوش	<i>ho'sh</i>	hush (ong, shu'ur)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
هوشيار	ho'shiya:r	hushyor (sergak)
هوشيارى	ho'shiya:ri:	hushyorlik (sergaklik)
هونه هو	ho' na ho'	hoynahoy (ehtimol)
هېبت	heybat	haybat
هېنت	heyyat	hay'at (tarkib)
هېجان	heja:n	hayajon (bezovtalik, iztirob)
هېز	hez	hez
هېچ	hech	hech (butunlay; arzimas)
هېكل	heykal	haykal
هېهات	heyha:t	hayhot (afsus-nadomat)

☆☆☆

(do chashmī hē) د

☆☆☆

(hamza) ء

☆☆☆

ی (choṭī ye)

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
يا	ya:	yo, yoki
يا جوج ماجوج	ya:ju:j ma:ju:j	ya'juj-ma'juj (afsonaviy yomon kuch)
ياد	ya:d	yod (xotira)
يادگار	ya:dga:r	yodgor
ياران (جمع)	ya:ra:n	yoron (do'stlar)
ياساول	ya:sa:vul	yasovul
ياسمين	ya:sumi:n	yosuman
ياقوت	ya:qu:t	yoqut
يال	ya:l	yol
يتيم	yati:m	yetim
يتيم خانہ	yati:mxana	yetimxona
يخ	yax	yax
يخنى	yaxni:	yaxna
يراق	yara:q	yaroq
يعنى	ya:ni:	ya'ni
يغما	yagma:	yag'mo
يقين (اعتبار، اعتماد)	yaqi:n	yaqin

اُردو	تلفظ	اُزبېك
URDU	TALAFFUZ	O'ZBEKCHA
يكتا	yakta:	yakto
يک دل	yakdil	yakdil
يکساں (ايک سا، برابر)	yaksa:n	yakson (تباہ)
يکشنبہ	yakshanba	yakshanba
يکھ	yakka	yakka
يگانہ	yaga:na	yagona
يہودی	yahu:di:	yahudiy
يورش	yu:rish	yurish (harakat, hujum)
يونان	yu:na:n	yunon

☆☆☆

(baṛī ye) ←

☆☆☆

Urdu-Uzbek Similar Words Dictionary

Compiled By

Dr. Tash Mirza Khalmirzaev



National Language Promotion Department, Islamabad

PAKISTAN